

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مبارکہ
پر پاک تحقیقی مقالہ



تائیف
ابوالفضل حنفی قادری ضمی

اکبر ناشیلیز لابر



Marfat.com

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیم کی مہک مبارکہ

پر ایک تحقیقی مقالہ

اللہ مُعَطٰ

بِ اللہ علیہ وسلم

تسکین القلوب، بعطراً المحبوب

تاریخ

ابوالاحمد محمد عسیم قادری ضوی

نیشنل پرنٹر، زردوبار لاہور

Ph: 37352022

البرنیش بیز

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

الصلوٰۃ والسلام علیکم بآ سیدی بآ رسول اللہ
وعلیٰ اللہ واصحابہ کم بآ حبیب اللہ

نام کتاب	کیا مہکتے ہیں مہکنے والے
مؤلف	ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی
(فاضل جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراثیاں شریف گجرات)	نظر ثانی و پروف ریڈنگ
	محقق اہلسنت علامہ قصیر شہزاد قادری
(فاضل و مدرس و نائب مفتی جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد گجرات)	محمد نعیم قادری رضوی
کمپوزنگ	
صفحات	200
تعداد	600
اشاعت	اپریل 2016ء
ناشر	محمد اکبر قادری
قیمت	160/- روپے

فہرست مضمایں

۱۲	حمد باری تعالیٰ
۱۳	نعت رسول مقبول ﷺ
۱۵	نذرانہ عقیدت
۱۵	انساب
۱۶	ہدیہ تشكیر
۱۷	تقریظ نمبر: ۱
۲۱	تقریظ نمبر: ۲
۲۳	دل کی آواز
۲۷	مقدمہ
۳۱	نبی کریم ﷺ کی پیدائش اور مہک
۳۲	حدیث نمبر: ۱
۳۳	شرح
۳۵	حدیث نمبر: ۲
۳۶	شرح
۳۷	حدیث نمبر: ۳
۳۸	شرح

- ۳۹ حدیث نمبر: 4
وہ نرم و ملائم مہکتا ہوا پھول
- ۴۰ شرح
- ۴۱ رسول اللہ ﷺ کے بالوں کی مہک
- ۴۲ حدیث نمبر: 5
نبی اکرم ﷺ کے جسم اقدس کی مہک
- ۴۳ حدیث نمبر: 6
- ۴۴ حدیث نمبر: 7
- ۴۵ حدیث نمبر: 8
شرح
- ۴۶ عذر کی تعریف
- ۴۷ مشک کی تعریف
- ۴۸ حدیث نمبر: 9
شرح
- ۴۹ حدیث نمبر: 10
- ۵۰ حدیث نمبر: 11
شرح
- ۵۱ حدیث نمبر: 12
شرح
- ۵۲ حدیث نمبر: 13
شرح

٥٣	حدیث نمبر: 14
٥٣	شرح
٥٥	حدیث نمبر: 15
٥٥	حضور اکرم ﷺ کے دہن اور لعاب دہن کی مہک
٥٥	حدیث نمبر: 16
٥٦	شرح
٥٧	حدیث نمبر: 17
٥٧	شرح
٥٨	حضور اکرم ﷺ کا لعاب دہن
٥٩	حدیث نمبر: 18
٥٩	حدیث نمبر: 19
٦١	حدیث نمبر: 20
٦١	شرح
٦٣	حدیث نمبر: 21
٦٣	رسول اللہ ﷺ کی بغل مبارک کی مہک
٦٣	شرح
٦٨	نبی اکرم ﷺ کی بغلیں
٦٨	نبی اکرم ﷺ کے مقدس ہاتھوں کا خوشبودار ہونا
٦٨	حدیث نمبر: 22
٦٩	شرح

- ۷۰ ضروری بات
- ۷۰ حدیث نمبر: 23
- ۷۱ شرح
- ۷۱ نبی اکرم ﷺ کے دست اقدس
- ۷۲ حدیث نمبر: 24
- ۷۲ شرح
- ۷۳ حدیث نمبر: 25
- ۷۴ شرح
- ۷۴ رحمت عالم کی بچوں سے محبت
- ۸۰ تربیت اولاد
- ۸۳ حدیث نمبر: 26
- ۸۳ شرح
- ۸۲ حدیث نمبر: 27
- ۸۲ حدیث نمبر: 28
- ۸۵ شرح
- ۸۵ انتہائی ضروری بات
- ۸۶ حدیث نمبر: 29
- ۸۷ حدیث نمبر: 30
- ۸۷ حدیث نمبر: 31
- ۸۷ حدیث نمبر: 32



٨٧	شرح
٨٨	مجازاتِ دستِ نبوی ﷺ
٩٥	حدیث نمبر: 33
٩٥	کمالِ حسن حضور ﷺ
٩٦	شرح
٩٦	سرقدس
٩٧	جبس مقدس
٩٨	ابو مبارک اور بھویں
٩٩	نبی اکرم ﷺ کی چشم ان مبارک
١٠٣	روشن رخسار
١٠٣	بنی پُر نور
١٠٥	دہن مبارک
١٠٥	کمالِ حسن حضور ﷺ
١٠٧	ریش مبارک
١٠٨	گردن مبارک
١٠٩	رنگت مبارک
١١١	نبی اکرم ﷺ کا سینہ اور بطنِ قدس
١١٢	حدیث نمبر: 34
١١٣	حضور ﷺ کے پینے کی مہک
١١٣	حدیث نمبر: 35

- ۱۱۵ _____ حدیث نمبر: 36
- ۱۱۶ _____ حدیث نمبر: 37
- ۱۱۷ _____ حدیث نمبر: 38
- ۱۱۸ _____ حدیث نمبر: 39
- ۱۱۹ _____ شرح حدیث نمبر: 40
- ۱۲۰ _____ شرح حدیث نمبر: 41
- ۱۲۱ _____ حدیث نمبر: 42
- ۱۲۲ _____ شرح
- ۱۲۳ _____ شاید کہ اُتر جائے تیرے دل میں میری بات
- ۱۲۴ _____ حدیث نمبر: 43
- ۱۲۵ _____ حدیث نمبر: 44
- ۱۲۶ _____ حدیث نمبر: 45
- ۱۲۷ _____ حدیث نمبر: 46
- ۱۲۸ _____ حدیث نمبر: 47
- ۱۲۹ _____ رسول اللہ ﷺ کے قدموں کی برکت سے راستوں کا مہکنا
- ۱۳۰ _____ حدیث نمبر: 48
- ۱۳۱ _____ حدیث نمبر: 49
- ۱۳۲ _____ شرح

- وہ قدم مبارک جو تاج عرش بنے
حدیث نمبر: 50
- نبی اکرم ﷺ کے بول، غائط، اور خون مبارکہ کی مہک اور برکت
حدیث نمبر: 51
- حدیث نمبر: 52
- حدیث نمبر: 53
- حدیث نمبر: 54
- شرح
- حدیث نمبر: 55
- طہارت فضلاتِ نبی کریم ﷺ
- اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ اور طہارت فضلاتِ انبیاء علیہم السلام
- نکتہ مفیدہ
- آپ نے جن پھروں کو استعمال کیا ان سے خوشبو آتی
- حدیث نمبر: 56
- حدیث نمبر: 57
- شرح
- چلا گیا وہ پھول مہک پھر بھی آتی ہے
- حدیث نمبر: 58
- شرح
- حدیث نمبر: 59

١٣٨	شرح
١٣٩	حدیث نمبر: 60
١٤٠	حدیث نمبر: 61
١٤١	حدیث نمبر: 62
١٤٢	شرح
١٤٣	حاضری روضہ اقدس
١٤٤	تھے مہکتے اُنکی سواری کے جانور بھی
١٤٥	حدیث نمبر: 63
١٤٦	شرح
١٤٧	خوبیوں کے متعلق فقہی مسائل
١٤٨	خوبیوں سے محبت نبوی ﷺ
١٤٩	نبی اکرم ﷺ کا خوبیوں کا استعمال کرنا
١٥٠	مردوں اور عورتوں کی خوبیوں میں فرق
١٥١	بطور علاج مرد کارنگ والی خوبیوں اور دواء استعمال کرنا
١٥٢	جمعہ کے دن نہانا اور خوبیوں کا
١٥٣	حالت روزہ میں خوبیوں کا استعمال
١٥٤	عید کے دن خوبیوں کا
١٥٥	حج عمرہ کرنے والے کے لیے بحالت احرام خوبیوں کا
١٥٦	میت کے متعلق خوبیوں کے احکام
١٥٧	الکوحل آمیز پر فیومزا اور علمائے کرام کے فتاویٰ جات

۱۸۰	اکھل کی تاریخ
۱۸۰	اکھل کی خصوصیات
۱۸۱	اکھل کی پہچان
۱۸۲	اکھل کا استعمال
۱۸۳	فتویٰ نمبر: ۱۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف القادری مدظلہ العالی
۱۸۴	فتویٰ نمبر: ۲۔ صاحبزادہ مفتی محمد عثمان افضل قادری مدظلہ العالی
۱۸۵	فتویٰ نمبر: ۳۔ دارالافتاء اہلسنت دعوتِ اسلامی
۱۸۵	فتویٰ نمبر: ۴۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمۃ
۱۸۷	اکھل اور اسپرٹ کی تحقیق
۱۸۸	پرفیوم کا حکم
۱۸۸	فتویٰ نمبر: ۵۔ مفتیانِ مجلسِ شرعی مبارک پور انڈیا
۱۸۹	اکھل کی لفظی تشریع
۱۸۹	اکھل آمیز اشیاء کا استعمال
۱۹۰	پرفیوم کا حکم
۱۹۰	فتویٰ نمبر: ۶۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمۃ وغیرہ
۱۹۲	فتویٰ نمبر: ۷۔ دارالافتاء اہلسنت دعوتِ اسلامی
۱۹۲	فتویٰ نمبر: ۸۔ مفتی محمد اکمل قادری معطاری مدظلہ العالی
۱۹۵	عرض مصنف
۱۹۶	مآخذ و مراجع

حمد باری تعالیٰ

ہے پاک مرتبہ فکر سے اس بے نیاز کا
 کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا
 افلک دارض سب ترے فرماں پذیر ہیں
 حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا
 اس بے کسی میں دل دمرے بیک لگ گئی
 شہرہ سنا جو رحمتیٰ بیکس نواز کا
 توبے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم
 دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا
 بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط
 اللہ کر علاج مری حرص و آز کا
 کیوں کرنہ میرے کام بینیں غیب سے حسن
 بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا

(مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ)

نعتِ رسول مقبول

(۱) جِسْمُكَ مُعَطَّرٌ مَنْبِعُ الْأَنُوَارِ

وَلَطِيفٌ وَنَظِيفٌ يَا سَيِّدَ الْأَبْرَارِ

اے نیک لوگوں! کے سردار ﷺ آپ ﷺ کا جسم مبارک خوشبو دار، ملائم، صاف سترہ، اور انوار کا سرچشمہ ہے۔

(۲) صَلَّى وَسَلِّمَ يَا رَبِّ بِلَامِقْدَارِ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الْأَطْهَارِ

اے میرے رب تعالیٰ! تو نبی اکرم ﷺ، آپ ﷺ کی پاک آل واصحاب پر بے حد رحمت اور سلامتی نازل فرم۔

(۳) فِدَاكَ قَلْبِي وَرُؤْحِي إِذْ تَمُرُّ

تَعْطَرُ الطُّرُقَ كَمَا فِي الْآثَارِ

یا رسول اللہ ﷺ! میرا دل اور روح آپ ﷺ پر قربان ہوں جب آپ ﷺ چلتے ہیں تو راستے مہک جاتے ہیں، جیسا کہ آثار میں وارد ہے۔

(۴) حَلْيَ رِيقَكَ مُرَا وَخَلِيجَا

وَمَاءَ الْآنَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْبَحَارِ

اے اللہ کے پیارے حبیب ﷺ! آپ ﷺ کا لعاب دہن نے کڑوے،
ترش، اور کنوؤں، دریاؤں، اور نہروں کے پانی کو میٹھا کیا۔

(۵) مَا أَحْسَنَ عَرْقَكَ طِبًّا وَ رِحْمًا

ذَلِكَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ أَجْسَامِ الْأَخْيَارِ

آپ ﷺ کا پیغمبر مبارک خوشبو اور مہک میں کتنا ہی عمدہ ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے بہترین جسموں پر بطور عطر لگاتے ہیں۔

(۶) لَيْتَ يَدَكَ مَاسٌ وَ جُهْمٌ وَ صَدْرٌ

وَ نَفْقٌ عَنْهُمَا مَا مِنَ الْإِثْمِ وَ الْغُبَارِ

اے اللہ کے پیارے محبوب ﷺ! کاش آپ ﷺ کا دستِ اقدس میرے چہرے
اور سینے کو چھو کر ان سے گناہوں اور خطاؤں کے غبار کو صاف کر دے۔


(۷) طِبُّ حَيْوَةِ النَّاعِمٍ وَ اجْعَلْهُ نَاعِمًا

أَنْتَ مَالِكُ ذِي الْفَضْلِ وَ الْأَخْتِيَارِ

یا رسول اللہ ﷺ! ناعم کی دنیاوی و آخری زندگی کو بہتر فرمائیں کہ اس کو حقیقتاً
خوشگوار فرمائیں کیونکہ آپ ﷺ (بفضل خدا اللہ تعالیٰ) افضل اور مالک و مختار ہے۔

(ہدیہ عقیدت: ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی)

نوت: میں شاعر نہیں ہوں بلکہ میرا تو شاعری سے دور کا تعلق بھی نہیں صرف اور صرف میں نے
اپنے آقا مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں لظم کے طور پر آپ ﷺ کی تعریف و توصیف کی ہے، ابوالاحمد غفرلہ،



نذرانہ عقیدت

☆☆☆

گلشن رسالت کے اُس مہکتے ہوئے پھول (حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) کی بارگاہ بلند و بالا میں جسکی مہک سے دو جہاں کے گلشن مہک رہے ہیں۔

☆☆☆

انتساب

گلشنِ عشق و محبت کے ان مہکتے ہوئے تمام پھولوں کے نام جنہوں نے ناموسِ رسالت کی خاطرا پنی جانوں کے نذرانے پیش کیے بالخصوص
 شہید ناموسِ رسالت حضرت غازی
 ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ
 کے نام جن کے جذبہ ایمانی سے اہل اسلام کو مزید ترویجی اور نگہت حاصل ہوئی
 اور
 اپنے والدین کے نام جنکی شب دروز دعاوں سے بندہ فقیر الی اللہ و رسولہ اس قابل ہوا۔

”گر قبول افتداز ہے عز و شرف“

(ابوالاحمد غفرلہ)

☆ ہدیہ شکر ☆

میں اپنے جمیع اساتذہ کرام کا مشکور ہوں جنکی بے لوث محنت اور تربیت سے
میں دینِ اسلام کی درباء خوشبوؤں سے بہرہ ور ہو رہا ہوں۔ بالخصوص اپنے روحانی
والد و مریبی، مجاہدِ ملتِ اسلامیہ، جرنیل اہلسنت حضرت صاحبزادہ پیر محمد افضل
 قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے علم کے عطر سے مجھے معطر
کیا۔

اور اپنے استاذی مکرم محقق اہلسنت حضرت علامہ قیصر شہزاد قادری صاحب کا
بھی مشکور ہوں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی پروف ریڈنگ کر کے کتاب کی زیب وزینت
میں حد درجہ اضافہ کیا۔ علاوہ ازیں میں اپنے تمام معاونین اور دوست احباب کا شکریہ
ادا کرتا ہوں جو کسی طرح بھی میرے ساتھ تعاون فرماتے رہے۔

(ابوالاحمد محمد نعیم قلعہ دی رضوی غفرلہ)

☆ تقریظ جلیل ☆

استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا محمد صفر منیر قادری مدظلہ العالی
 ﴿فضل و مدرس و جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات﴾

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي هدانا الى طريق الحق اهل السنۃ
 والجماعۃ بفضلہ العظیم والصلوۃ والسلام على عبده و
 نبیه و رسوله و نورہ و منبع جودہ و مظہر صفاتہ و مالک
 ملکہ و عالم اسرارہ و زینت فرشہ و مکین عرشہ و قاسم
 رزقہ الذي کان لعلی خلق عظیم و على الله و عترته و
 اولادہ و ازواجہ و بناته و ذریاته و خلفائه و اصحابہ و
 اولیاء ملته و علماء اهل سنته و سائر امتہ الداعین الى
 صراط مستقیم.

اما بعد:

الله جل جلاله و عَمْ نواله و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء
 اور حضور پر نور، شافع یوم النشور، عالم ما کان و ما یکون، دستکیر جہاں،

نعمگسازِ زماں، سید سرور ایاں، مالک انس و جاں، سید المبلغین، رحمۃ
للعلمین، نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، حسن و اخلاق کے پیکر، نبیوں
کے تاجور، محبوب رب اکبر، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطر سینہ، باعث
نزولی سینہ، فیضِ گنجینہ، ہم بے کسوں کے مددگار، شفع روزِ شمار، دو عالم کے
مالک و مختار، حبیب پروردگار، نبی مکرم، نورِ مجسم، رسول اکرم، شاہِ آدم و بنی
آدم، تجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مخزنِ جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و
شرافت، محبوب رب العزت، حسنِ انسانیت، حضور نبی پاک، صاحب
لولاک، سیاحِ افلاک، شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حسن و جمال، دافعِ رنج و
ملال، صاحبِ جود و نوال، رسول بے مثل و مثال، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا
کے لال، پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد۔

میں بندہ ناچیز اپنے شاگردِ رشید، ہر دلعزیز، قابلِ تسکین، لا قی صد تحریم و تکریم،
علامہ ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی صاحب کی تصنیف "تسکین القلوب بعطر
المحبوب" کے بارے چند الفاظ لکھنے کی جسارت اس شعر سے کرتا ہوں کہ۔

اک بارہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر
ہزار بار ادھر سے بھار گزری ہے

مولانا نے یہ کتاب خالصتاً محبتِ رسول ﷺ کا اظہار کرتے ہوئے تصنیف
فرمائی ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کریگا کہ اس میں سرورِ کونین ﷺ کی پیاری پیاری
خوبیوں مبارک کا تذکرہ محبت بھرے انداز سے ہی کیا گیا ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گذشتہ صدیوں سے لے کر آج تک لوگ سید

عالم ملائیقہ کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی علمی استطاعت کے مطابق احاطہ تحریر میں لارہے ہیں۔ مولانا نے بھی اسی بات کے پیش نظریہ کتاب تصنیف کی ہے۔

مولانا نے اپنی تصنیف میں قرآن و حدیث سے مہک رسول ملائیقہ کے 63 واقعات کو قلمبند کیا۔ اور عقائد اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے عقائد باطلہ کی بہت مہذب اور مضبوط دلائل سے تردید فرمائی ہے۔ اور آخر میں متقد میں اور متاخرین کے الکوحل والی پرفیوم کے متعلق فتاوا جات بھی نقل کیے ہیں۔ عربی عبارات کو ترجمہ اور کثیر کتب مفید کے حوالہ جات سے مزین کیا ہے۔

فاضل موصوف بے شمار خوبیوں کے حامل ہیں۔ عربی اور اردو میں حمد، نعمت اور منقبت خود ہی بیان کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی آپ فی سبیل اللہ تدریس فرمادیں ہیں۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ الشہادة العالمية (ایم اے) کا امتحان اے گریڈ (متاز مع الشرف) کے ساتھ پاس کیا اور گجرات میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے جامعہ کی عزت اور کارگردگی میں اضافہ کیا اور اپنے تمام اساتذہ کا سرفخر سے بلند کر دیا اور سراجی جیسی مشکل ترین کتاب میں 100/99 نمبر حاصل کر کے بتا دیا کہ میں آنے والے دور میں دین متنیں کی خدمت کو بحوبی انجام دوں گا۔ (انشاء اللہ)

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پر روتی رہی
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا
میری بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ فاضل موصوف کو اپنی تائید و نصرت اور
رسول اللہ ملائیقہ کی خاص توجہ عطا فرمائے اور صحابہ کرام، تابعین اور شیع تابعین و

فقہائے مکر میں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہم الرحمۃ کے عقائد و نظریات کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی عظمت بیان کرنے کی توفیق بخشنے۔

مولانا کے ہاتھ میں جو قلم ہے اس کا سلسلہ فیضان پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری مدظلہ العالی کے وسیلہ سے حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی اور اعلیٰ حضرت بریلوی علیہما الرحمۃ سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ سے ملاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ قلم عشقِ مصطفیٰ ﷺ میں سرشار رہے، اس سے عدو نبی ﷺ کے سینہ میں غار رہے، عشاقي رسول ﷺ کے سینہ میں بہار رہے، اور گلستان نیک آباد کی تازہ علمی آب شار رہے آمین بجاه النبی الکریم الامین۔

فیضانِ جرأۃ و بہادری

تحریر: علامہ محمد صفر منیر قادری

﴿فاضل ذ مدرس جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد گجرات﴾

تقریظ جلیل

حضرت علامہ ایاز اختر نعیمی مدد ظلہ العالی

(فضل جامعہ نعیمیہ لاہور)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ! گز شتر روز مولا نا محمد نعیم قادری صاحب کی کتاب "تسکین القلوب بعطر المحبوب" نظر دوں سے گزری۔ صفحہ اول پر نظر پڑتے ہی دل کو سکون آگیا۔ اس کے بارے تاثرات بیان کرنے لگا تو مولا نارو م کا یہ شعر یاد آگیا کہ

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتہن کمال بے ادبی است

ہماری کیا اوقات کہ ہم اس مقدس ہستی کے بارے میں کچھ بیان کر سکیں۔ وہ کمال کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ بس ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ چند الفاظ پیش خدمت کیے ہیں۔

مولانا موصوف نے اپنی اس کتاب میں ایک اچھوتے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اور قرآن و حدیث اور بزرگانِ دین کے مدلل کلام سے اسے مزین کیا ہے۔ اس کتاب کے ہر ہر لفظ میں محبت کا پہلو نمایاں ہے۔ قاری اس کے مطالعہ کے دوران خود کو عشق رسالت ﷺ میں ڈوبا ہوا اور خوشبوئے مصطفیٰ ﷺ سے مہکتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور مدینہ شریف کی ٹھنڈی ہوا کے احساس سے لبریز جھونکے محسوس کیے بغیر نہیں

رہ سکتا۔ قاری اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں کا مسافر خیال کرنے لگتا ہے۔ اور پھر اس مقدس وادی میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ واپس آنے کے خیال سے بھی کسوں دور ہو جاتا ہے۔ مولانا موصوف نے ہب رسالت ﷺ میں گن ہو کر اپنے الفاظ کو پھولوں کی لڑی کی صورت میں پروکرایے ہار بنا دیئے ہیں۔ جن کی خوشبو سے قاری کا ذہن عطر محظوظ ﷺ سے معطر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت! حضور سرور کو نین دلوں کے چین ﷺ کے صدقے مصنف کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور انہیں محبت رسول ﷺ کے جذبے سے مزید سرشار فرمائے۔

آمین بـجـاهـ النـبـیـ الـکـرـیـمـ الـامـمـ

خاکسار در مصطفیٰ ﷺ

ایاز آخر نعیمی

فاضل جامعہ نعیمیہ لاہور

بانی نعیم العرفان اسلامک انسٹی ٹیوٹ

محجرات

دل کی آواز

بہار کا موسم تھا میں اپنے مدرسے میں آیا تو میری نظر مدرسے میں موجود باغیچے کے گلاب کے ایک پھول پر پڑی جوانہ تازہ تازہ ہی کھلا ہوا تھا۔ چونکہ صبح کا وقت تھا اس لیے اس پر کچھ شبنم کے قطرے بھی موجود تھے، جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کی مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو میری توجہ یک دم ان احادیث کی طرف چل گئی جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جب کبھی رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک پکڑتے تو ہمیں آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک برف کی طرح ٹھنڈے اور خوشبودار محسوس ہوتے تھے۔

تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضور ﷺ کے ہاتھ مبارک کو مس کرنے کی ٹھنڈک اور خوشبواسی پھول کی طرح ہوگی جو مہک بھی رہا ہے اور شبنم کی وجہ ہے ٹھنڈا بھی ہے۔ پھر اچاک میرے دل نے میرے اس ذہن کو جواب دیا کہ کہاں وہ ہستی کہ کڑورہا گلشن مل کر بھی اس کی مہک کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کہاں یہ تنہا اور چھوٹا سا ایک پھول۔؟

لیکن میری ایک بات سے آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ پھول، گلیاں، چمن، مہک، اہک چمک، دمک، صبح کے وقت کی وہ بھینی، بھینی ہوا جو کسی باغیچے یا گلستان سے گزرتی ہے اور اس کی پیاری پیاری دل کو خندہ کر دینے والی خوشبو، یہ

زمیں، آسمان، یہ، فلک، ملک، سب کچھ حتیٰ کہ فردوسِ جناب جس کی مہک اور حسن کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی سب کچھ صرف میرے ہی محبوب ﷺ کے توسل اور صدقہ سے ہیں۔

تو آپ اس بات سے بھی اتفاق کر لیں کہ ان پھولوں میں میرے ہی محبوب ﷺ کی خوبصورتی مہک رہی ہے، یہ کلیاں میرے ہی محبوب ﷺ کے جسم کی ملامت کی وجہ سے زرم و گداز ہیں۔

یہ چمنوں اور گلستانوں کی تروتازگی میرے ہی محبوب ﷺ کے جوبن و شباب کی سعادت ہے، یہ عطروں کی مہک و لہک میرے ہی محبوب ﷺ کی صبحت اور حسن گلو و سوز کی دی ہوئی بھیک ہے۔

یہ گلشن سے گزرنے والی ہوا جو پھولوں اور پھولوں کی خوبصورتی سے مہکتی ہوئی چلتی ہے وہ میرے ہی محبوب ﷺ کی سانسوں کا صدقہ ہے۔

آسمان کی بلندی میرے ہی محبوب ﷺ کی رفت، یہ فرشتوں کی نورانیت میرے ہی محبوب ﷺ کے نور، اور یہ حوروں کا حسن و جمال میرے ہی محبوب ﷺ کے روح تاباں کے طفیل ہے۔

گلستانوں میں بلبلیں اور کوئیں اپنی پیاری پیاری اور دلنشیں آواز کے ساتھ میرے ہی محبوب ﷺ کے نغمے گاتی ہیں۔

یہ پہاڑوں سے ہو کر آنے والے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے خوبصورت چشمے ان کنوؤں پر رشک کرتے ہیں جن میں میرے محبوب ﷺ نے اپنا العابِ دہن ڈال کر میٹھا اور عطر فشاں کیا۔

یہ کھسار اور بڑے بڑے پہاڑ اُن پھروں پر جان فدا کرتے ہیں جن کو میرے
محبوب ﷺ نے اپنے قدموں تلنے روندا۔

وہ را ہیں جن کے دائیں بائیں پھول اور کلیاں مہکتی ہیں اور جن پر نگین اور حسین
تلیاں طواف کرتی ہیں اور وہ را ہیں جو مشامِ جاں کو خندہ کرتی ہیں میرے محبوب ﷺ
کے مہکتے ہوئے راستے اُن را ہوں کے لیے مسیح اُن جاں ہیں۔

بلبل اور کوئل کو ترنم و سوز میرے ہی محبوب ﷺ کی مدح سرائی کے لیے دیا گیا
ہے۔

اے وہ لوگو! جو حسن طلب اور جمال کے شیدائی ہوا آؤ میرے محبوب ﷺ پر شیدا
ہو جاؤ جن کے حسن پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی رشک کرتے ہیں۔

اے وہ لوگو! جن کو دنیا نے جفا کے زہر سے ڈسا ہے اور جو دنیا کی خام خیالی کے
مرض میں جلتا ہوا آؤ میرے محبوب ﷺ کی ہمیشہ رہنے والی وفاء سے شفاء پاؤ۔

اے وہ لوگو! جو میٹھی میٹھی باتوں اور حسین آواز اور بہترین خصال سے محبت
کرتے ہوا آؤ میرے محبوب ﷺ کی زبان اور لبوں کی مٹھاس پر قربان ہو جاؤ جن کی
آواز کی عظمت کا جھنڈا حضرت داؤ علیہ السلام کی آواز سے بھی بلند ہے

اے وہ لوگو! جو کسی سے کسی احسان کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہو میرے
محبوب ﷺ کے قدموں پر جان شارکر دو جن کو محسن کائنات کا لقب دیا گیا۔

اے رشحات قلم کے میدان کے شہسوار! آؤ میرے محبوب ﷺ کے حسن جمال کی
داستانیں تحریر کر کے اپنے اقلام کو سرخو کرو۔

اے لوگو! اس ہستی سے محبت کرو جس کی محبت تم پر فرض ہے اس ہستی سے پیار

کرو جو کچھ لیتی نہیں فقط دیتی ہے اس رسول ﷺ سے عشق کرو جو تم کو کبھی نہ بھولے آؤ
آؤ میرے محبوب ﷺ سے پچھی محبت کر کے دنیا اور دین کی برکات حاصل کرو وقت
گزرنہ جائے کہیں وقت اجل آئے آج ہی اس نبی ﷺ سے محبت کرو جو قبر
میں بھی تم کو تہرانہ چھوڑیں گے۔

وہ قبر جہاں تمہارے مجازی محبوب تم کو چھوڑ دیں گے جہاں خونی رشتے منہ موز
لیں گے جہاں ماں باپ کی الفت دور دور تک نہ ہوگی، جہاں جگری دوست اپنے
ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے، جہاں بیٹے بھی مدد نہ کریں گے۔

اگر وہاں کا کوئی ساتھی وہاں کا کوئی غمگسار تم کو چاہیے تو اپنی زندگی ختم ہونے سے
پہلے اس کو پالو اس سے محبت کر کے اس کی نگاہوں میں سرخ روئی حاصل کرو۔

زندگی نے نہ کبھی کسی سے وفا کی نہ کرے گی کب وقت واپسیں جائے؟ کچھ معلوم
تو نہیں، آؤ آج سے ہی اور ابھی سے ہی پختہ عہد کریں کہ ہم اس محبوب ﷺ سے محبت
کرتے ہیں جو محبت اور وفا کا سرچشمہ ہیں، جو ہم کو کبھی بھی اکیلانہیں چھوڑ دیں گے
اور ہاں صرف محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ محبت کا حق بھی ادا کریں یعنی عمل کے
میدان میں بھی اعلیٰ شہسوار بن جائیں، سراپائے نیل مرام بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو اپنے محبوب ﷺ سے صحیح معنوں میں عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمارے عشق میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔

آمین بجاه النبی الکریم الامین

ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی

فاضل جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد گجرات

مقدمہ

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلوٰۃ وسلام پیش کرنے کے بعد۔

نبی اکرم ﷺ کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے کیونکہ آپ گلشن و حدت کے وہ پھول ہیں جس کی رنگت بھی نرالی اور ممتنع النظیر اور مہک بھی بے مثل و مثیل ہے۔ آپ ﷺ سے ہی تمام کائنات کے گل و گلشن مہک رہے ہیں اور آپ ﷺ کی مہک اس تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ ﷺ کی مہک کی بات کیسے بیان ہو سکتی ہے اور کون بیان کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ ﷺ کا ہر عضو اور آپ ﷺ سے مس ہونے والی ہر چیز حتیٰ کہ آپ ﷺ کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی وہ بھی ایسی مہک رکھتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی خوبی و اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ جنت کی شراب کی صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

“خِتَامَةٌ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ”

(المطعمین ۱۶۸۳)

اس (شراب) کی مہر مٹک (کستوری) پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ لیچا میں لیچانے والے۔

اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرَّبُونَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا“

(الشعر ۵:۷۶)

بیشک نیک پیس گے اس جام میں سے جس کی ملوٹی کافور ہے۔
ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنت کی شراب کی صفات بیان فرمائیں کہ ان
میں سے مشک (کستوری) اور کافور کی مہک اور ذائقہ ہو گا۔ اور اس بات میں بھی کوئی
شك نہیں کہ جنت اور اس کی تمام تر نعمتیں حضور ﷺ کے نور سے بنی ہیں جیسا کہ خود
نبی اکرم ﷺ نے ایک صحیح الاسناد حدیث میں ارشاد فرمایا۔

”وَالْجَنَّةُ وَمَا فِيهَا مِنْ نَعِيمٍ مِّنْ نُورٍ“

اور جنت اور جواں میں نعمتیں ہیں (وہ بھی) میرے (محمد المصطفیٰ ﷺ)
نور سے ہیں۔

حوالہ: (النزار المعمود من البحر، الاول من المصنف، ادارہ اہل سنت و جماعت، لاہور، 2005ء، ص ۶۵)

معلوم ہوا کہ جس مشک اور کافور کا ذکر قرآن میں ہوا وہ میرے ہی بنی ﷺ کے
نور کی مہک ہے۔ اور اس تاویل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی خوبیوں کا ذکر
قرآن میں آیا ہے۔ تو جیسے جنت کی مہک ہمیشہ رہنے والی ہے ایسے ہی ہمارے
آقا ﷺ کی مہک کو بھی دوام ہی دوام ہے۔ اور حضور ﷺ سے نسبت رکھنے والی ہر
چیز ہی خوبیوں میں بکھیرتی ہے۔

ملا علی قاری حنفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ يُكَرَّهُ وَلَا

غیر طیب“

کہ نبی اکرم ﷺ کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ناپسندیدہ اور خوبصوراتی نہ ہو،
(یعنی نبی اکرم ﷺ کی ہر چیز ہی محبوب ہے اور اس سے خوبصورتی ہے)

حوالہ: (شرح شفاء، ملا على فاری، الفسم الاول فی تعظیم العلی الاعلی حل و عز، الباب الثاني فی
نکمل اللہ تعالیٰ لہ المحسان خلقاً و خلقاً، فصل و اما نظافة حسنه و طیبه، ج ۱، ص ۱۶۹)

نبی اکرم ﷺ کی جسم کی مہک پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن
اُردو میں اس پر کوئی خاص کام نہیں ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ نبی اکرم ﷺ کے
جسم مبارک کی مہک پر کچھ لکھا جائے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور میں نے یہ کام بفضل
خدا انجام دیا۔ میں نے شروع میں ارادہ کیا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کے جسم مبارک کہ
مہک پر چالیس احادیث جمع کر کے اربعین کی شکل میں کتاب کوشائع کیا جائے۔ لیکن
جب کام شروع کیا تو حضور ﷺ کی مہک میں آنے والی احادیث چالیس سے زیادہ
ہو گئیں اور یہ یقیناً نبی اکرم ﷺ کی صفت غیر متناہیہ کی وجہ سے ہوا پھر میں نے اپنا
ارادہ بدل کر حضور ﷺ کی ظاہری زندگی کی نسبت سے تریسٹہ احادیث لکھنے کا ارادہ کیا
لیکن پھر بھی وہی بات کہ نبی اکرم ﷺ کی مہک اور زیادہ میسر ہوئی اور احادیث
تریسٹہ سے بھی زیادہ ہو گئیں۔ پھر اس بارے میں میں نے اپنے استادی مکرم اور برادر
اکبر محترم محمد نفیس قادری رضوی صاحب سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو
احادیث جمع کی ہیں ان کی شرح بھی کریں تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث مبارک کی
شرح میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت بڑا کا ہے۔ لیکن آپ نے پُر زور تاکید فرمائی کہ
شرح ضرور ہونی چاہیے اور جو احادیث تریسٹہ سے تجاوز کر گئی ہیں ان کو شرح کے اندر
نقل کرنا چاہیے۔ آپ کے اشد اصرار کی بنا پر بندہ فقیر الہ ولد رسولہ نے اپنے کم علمی

کے باوجود شرح کرنے کے لیے کوشش کی۔ اور چونکہ یہ نبی اکرم ﷺ کے جسم مبارک کی خوبیوں کے متعلق لکھا گیا اس لیے مناسب سمجھا کہ خوبیوں کے متعلق فقہی احکام بھی ذکر کر دیئے جائیں اور پروفیوں کے مسئلہ میں علمائے کرام کے فتاویٰ اجات بھی نقل کیے جائیں تو یہ کام بھی میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا۔ لیکن میں پھر بھی قارئین کرام سے عرض کرتا ہوں کہ میری کم علمی کی وجہ سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اصلاح کا دامن ہاتھ میں تھام کر اصلاح فرمائے۔

عرض مصنف:

دوران تحریر مجھ سے ہوا کوئی غلطی یا بھول ہو گئی ہو تو میں اپنے اُس رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جس کی بخشش اور مغفرت کے کوئی حد نہیں کہ وہ میرے جملہ گناہ بتول مصطفیٰ ﷺ معااف فرمادیں و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور میں قارئین کرام سے موبدانہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میری کسی قسم کی بھی غلطی پر مطلع ہوں تو بندہ فقیر کو ضرور اطلاع فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اس کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔

ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی

“0335 1600053”

(فضل جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد شریف گجرات)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نبی کریم ﷺ کی پیدائش اور مہک:

امام مناوی فرماتے ہیں۔

ولما کان نور محمد ﷺ فی ظهر جدہ عبد المطلب

کانت تفوح منه الرائحة المسکية و كانت قريش

يستسقون ببركته ويستنصرون به اذا أصابهم انهزام

جب محمد ﷺ کا نور آپ ﷺ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ

کی پشت میں تھا اس سے مشک جیسی خوبیوں میکتی تھی، اور قریش اس کی

برکت سے بارش طلب کرتے اور مصیبت کے وقت اس کے ساتھ مدد

مانتے۔

حوالہ:، مواہ الدینیہ، طہارۃ نسبہ ﷺ، ج ۱، ص ۶۳،

ڈاکٹر عاصم ابرہیم الکیالی الشازلی، مجموع لطیف انسی فی صیغ المولد البوری الفدوسی، ص ۲۴۵

مولود المناوی، امام و شیع الصناؤی علیہ الرحمۃ، التوریہ الرضویہ ہلشٹک کمپنی، لاہور، پاکستان، ۱۹۷۰)

شرح:

حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب نبی اکرم ﷺ کا نور آپ ﷺ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں تھا تو ان سے مشک جیسی خوبیوں آتی تھی دیکھیے کہ میرے محبوب ﷺ کی مہک کتنی زیادہ ہے، پھول جب تک نمودار نہ ہو اس کی مہک نہیں آتی، عطر جب تک بند رہے اپنی خوبیوں نہیں بکھیرتا، لیکن میرے

محبوب ﷺ کی مہک تو دیکھو بھی جلوہ نہیں کی لیکن آپ ﷺ کی خوبصورتی کے
مہک کریے بتارہی ہے کہ وہ باغ رسالت کا مہکتا ہوا پھول جس سے تمام کائنات کے
گلشن مہک رہے ہیں وہ نمودار ہونے والا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ
قریش آپ ﷺ کی ولادت سے قبل اپنے مصائب اور تکالیف میں آپ ﷺ کی
برکت سے مدد حاصل کرتے تھے اور ان کی مصیبت کو درجی کیا جاتا تھا۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

”لَمَّا وَضَعَتْ وَلَدِيْ مُحَمَّداً ﷺ وَضَعَتْهُ مَكْحُولاً مَدْهُوْنَاً
مَسْرُورًا مَطِيبًا مَخْتُونًا قَدْ شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرًا وَحَمْلَهُ جَبْرِيلُ
فَطَافَ بِهِ بَرًا وَبَحْرًا وَحَفَتَ بِهِ الْمَلَائِكَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشَمَائِلِهِ،
فَرَاوًا جَبِينًا وَحَاجِبًا يَفْوَقُ حَسَنًا وَنُورًا وَضِياءً وَعَطْرًا“
کہ جب میں نے اپنے نور نظر محمد ﷺ کو جنم دیا تو آپ ﷺ سرمه اور
تیل لگائے ہوئے تھے اور آپ ﷺ سے عمدہ خوبصورتی کی تھی اور
آپ ﷺ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ ﷺ کو اٹھایا اور خشکی، تری کا چکر لگایا، اور فرشتے آپ ﷺ کے
دائیں باسیں تھے تو انہوں نے ایسی پیشانی اور آبروؤں کا دیدار کیا جو
بالائے حسن و نور تھی اور جس سے روشنی اور خوبصورتی کی تھی۔

تخریج: (ڈاکٹر عاصم ابراہیم الکبیالی الشازلی، مجموع لطیف انسی فی صیغ المولد النبوی القدس
ص ۲۸۱، مولد العروس، امام ابن قیم الجوزی، التوریہ الرضویہ پبلشنس کمپنی، لاہور، پاکستان، ۲۰۱۵ء)

حدیث نمبر 1:

اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ

”قالت آمنة رضى الله تعالى عنها لما وضعته وضعفه
مكحولاً مدحوناً مطيناً مختوناً ساجداً لله عز وجل رافعاً يديه
إلى السماء ووجهه يسطع نوراً فاحتمله جبريل ولveh في
ثوب من حرير من الجنة وطاف به مشارق الأرض و
غاربها“

حضرت آمنة رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے نور نظر
محمد ﷺ کو جنم دیا تو آپ ﷺ سرمه اور تیل لگائے ہوئے تھے
آپ ﷺ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو آرہی تھی اور آپ ﷺ کا ختنہ کیا ہوا تھا،
اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے اور
آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند تھے تو آپ ﷺ کو
پیشائی پر نور چمک رہا تھا، پھر حضرت جبریل عليه السلام نے آپ ﷺ کو
أٹھایا اور ایک جستی ریشمی کپڑے میں پیٹ لیا اور آپ ﷺ کو مشرق و
مغرب کی سیر کروائی۔

حوالہ: (ذاکر عاصم ابراهیم الکیالی الشازلی، مجموع لطیف انسی فی صبغ المولد النبوی
القدسی، ص ۲۹۴، مولد العروس، امام ابن قیس الحوزی، التوریہ الرضویہ پبلشنس بکمبئی، لاہور،
پاکستان، ۱۹۶۰)

شرح:

ان دو احادیث میں بیان کیا گیا کہ جب آپ ﷺ کی ولادت ہوئی تو
آپ ﷺ کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمه لگا ہوا تھا اور آپ ﷺ کے سر مبارک
کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا۔

اور آپ ﷺ قسم فرماتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ظلمتیں اور اندرے ختم ہو جائیں مصائب کے بادل ہٹ جائیں گے اور ہر طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور آپ ﷺ سے عمدہ قسم کی خوبیوں کی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جو گندگی اور نجاست سے کوسوں دور ہے بلکہ یہ تو وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جس سے دیران دل یادِ الٰہی سے مہکے گے، اور امام بو صیری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جس جگہ نبی اکرم ﷺ کی ولادت ہوئی وہ جگہ بھی مہک اٹھی،

أَبَانَ مَوْلُدُهُ عَنْ طِيبٍ عَنْصُرٍ

يَا طِيبَ مُبْتَدِأً مِنْهُ وَ مُخْتَمِ

حضور ﷺ کی جائے ولادت نے جسدِ اقدس کی خوبیوں ظاہر کی بیان اللہ اے لوگوں دیکھو! حضور ﷺ کی جائے ولادت اور مدفن دونوں کیسے پاک اور خوبیوں دار ہیں۔

کسی نے کیا خوب ترجمانی کی کہ،

خوبیوں یہ پیاری پیاری کس محل کی آرہی ہے

بادِ صبا یہ کس کا مژده سنا رہی ہے

ابڑ بہار یک سو چھڑ کاؤ کر رہا ہے

بادِ سحرِ خوشی میں پنکھے ہلا رہی ہے

آمد ہے کیا اس کی جس کا خدا ہے شیدا

فوجِ نجوم کس کے ہمراہ آرہی ہے

ہر جا سے آواز آئی صل علی النبی کی
حپ نبی دلوں پر کیا رنگ لارہی ہے
اور آپ ﷺ کا ختنہ بھی کیا ہوا تھا اس لیے کہ میرا محبوب ﷺ بہت شرم و حیا والا
ہے تو میرے محبوب ﷺ کی شرم گاہ کو کوئی دوسرا نہ دیکھے جیسا کہ حضور ﷺ نے خود
فرمایا کہ کچھن میں جب کبھی میری شرم گاہ سے کپڑا ہٹ جاتا تو فرشتے میری شرم گاہ کو
چھپا دیتے تھے،

جب آپ ﷺ پیدا ہوئے تو اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا یعنی آتے ہی
رب تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدت کا اعلان فرمایا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ
آپ ﷺ ”ربی هب لی امتی“ پڑھ رہے تھے کہ اے میرے رب میری امت
مجھے سونپ دے پتہ چلا کہ حضور ﷺ اعلانِ نبوت سے پہلے بھی نبی تھے کیونکہ امت
صرف نبی کی ہی ہوتی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو ایک جنتی
کپڑے میں لپیٹ کر مشرق و مغرب کی سیر کرائی کہ اے میرے محبوب اپنی سلطنت کو
دیکھ لو، اور فرشتوں کے جلوس میں آپ ﷺ کو مشرق و مغرب کی سیر کرائی۔ جس کا
سارا جلوس نوری ہے اس کے اپنے انور کا عالم کیا ہوگا۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ

یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا

حدیث نمبر 2:

حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کی پیدائش
ہوئی تو

”نظرت إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةً

الْبَدْرُ وَرِيحَهُ يُسْطِعُ كَالْمَسْكِ الْأَذْفَرِ“

میں نے نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھا تو آپ ﷺ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ ﷺ کی خوبصورتی سے اعلیٰ تھی۔

حوالہ: (شرح زرقانی علی الموارد، ابو عبد اللہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی المالکی متوفی ۱۱۲۵ھ، ذکر تزوج عبد اللہ آمنہ، ج ۱، ص ۲۱۵، دار الكتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۶)

شرح:

اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کے چہرے کو نورانیت اور حسن میں چودھویں رات کے چاند کیسا تھا تشبیہ دی گئی کہ حضور ﷺ کا حسن کتنا زیادہ تھا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور ﷺ سے پہلے اور نہ بعض میں آپ ﷺ کی مثل دیکھا اور امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔

”لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ إِلَّا شَبَهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ“

حوالہ: (دلائل النبوة بباب القول فيما اوتني يوسف عليه السلام، ج ۱، ص ۶۰۷)

کہ جب بھی کوئی شخص نبی کریم ﷺ کے حسن کا تذکرہ کرتا تو آپ ﷺ کے چہرے کو چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا تھا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا کہ۔

وَهُكَمَالُ حَسْنٍ حَضُورٌ ہے کہ گماں نقش جہاں نہیں

یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

اور کسی مقام یوں عرض کرتے ہیں کہ

خوشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چکا تھا قمر
بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
امام مناوی علیہ الرحمۃ نے ایک طویل حدیث کو مفہوماً نقل کیا جس کا کچھ حصہ یہ
ہے کہ

”وعبت الرؤا نح الطيب بين العوالم الجبروتية، و تعطر
الملا الأعلى بعنبر لحظات اوقاته العظام“

تخریج: (ذاکر عاصم ابراہیم الکبائی الشازلی، مجموع لطیف انسی فی صبغ المولد النبوی
القدسی، ص ۲۵، مولد المناوی، امام و شیخ المناوی علیہ الرحمۃ، سوریہ الرضویہ پبلشنس کمپنی،
lahore، پاکستان، ۱۹۷۰ء)

جس وقت نبی اکرم ﷺ کی ولادت ہوئی تو عمدہ ترین خوشبویں عالم
جبروت میں مہکنے لگیں اور ملائے الاعلیٰ عنبر سے مہکنے لگا۔

حدیث نمبر 3:

نبی اکرم ﷺ کی قبیلہ بنی سعد میں آمد اور قدرتی طور پر خوشبوؤں کے ساتھ
استقبال:

حضرت حلیمه رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

وعن حلیمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت لما دخلت به الى
منزلی لم يبق منزل من منازل بنی سعد الا شمنا به ريح
المسک والقيت محبته واعتقاد بركته في قلوب الناس
حتى ان احدهم كان اذا نزل به اذى في جسدہ اخذ
کفہ ﷺ فيضعها على موضع الاذى فيبرا باذن اللہ تعالیٰ

سريعًا وَ كَذَا اذَا اعْتَلَ لَهُمْ بَعِيرٌ او شَاةٌ.

حوالہ: (امام یوسف بن اسماعیل التہانی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المغزات، قسم ثانی، الباب الثالث ص، ۱۹۱، فدیعی کتب خانہ)

حضرت حبیبہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نبی اکرم ﷺ کے لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو نبی سعد کے ہر گھر سے ہم نے مشک جیسی خوشبو کو سونگھا، اور لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم ﷺ کی محبت اور آپ ﷺ سے برکت کا عقیدہ (قدرتی طور پر) پختہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ حضور ﷺ کی (نفحی) تعلیل کو پڑھتا اور تکلیف والی جگہ پر اس کو رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہو جاتی تھی۔ اور اگر ان کے اونٹ ماں بکریاں تکلیف زدہ ہوئیں تو وہ ایسا ہی کرتے تھے۔

شرح:

بنو سعد میں حضور ﷺ کی آمد پر جو مہک ہر طرف پھیل گئی وہ کسی آدمی نے نہیں لگائی تھی بلکہ قدرتی طور پر بنو سعد سے پھوٹی تھی اور لوگوں کے دلوں میں خود بخود حضور ﷺ کی محبت رچ بس گئی۔ یہ کون ہے؟ جو حضور ﷺ کی آمد پر خشبومیں باکر نبی اکرم کا استقبال کر رہا ہے یہ کون ہے؟ جو حضور ﷺ کی محبت لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر رہا ہے یقیناً یہ اللہ رب العزت کی ہی ذات با برکت ہے جو لوگوں کو یہ بتلارہی ہے کہ جیسا محبوب اعلیٰ ایسا استقبال بھی اعلیٰ نہ ایسا کسی کو محبوب ملے گا اور نہ ہی اس طرح کسی کا استقبال کیا جائے گا۔

اور حضور ﷺ کا بچپن میں ہی یہ ماروں کو صحت یاب کرنا ”سبحان اللہ“ اے عقل،

سیلم اور اے ذوقِ حق شناس تو ہی بتا جب میرے محبوب ﷺ کے ہاتھ مبارک کی بچپن میں یہ شان ہے کہ اس کے مس کے ہونے سے اللہ تعالیٰ امراض کو دفع کر رہا ہے تو جب یہ دستِ کرم اپنے جوبن اور عروج کو پہنچا ہو گا تو اس کی کیا شان، ہی گی؟؟؟؟

لَيْتَ يَذَكَّرَ مَاسُ وَجْهِي وَ صَدْرِي

وَ نَقَى عَنْهُمَا مَا مِنْ الْإِثْمِ وَ الْغَيْرِ

یار رسول اللہ ﷺ! کاش آپ ﷺ کا دستِ کرم میرے چہرے اور سینے کو مس کر جائے تو ان سے تمام گناہ اور غبار صاف ہو جائے۔

حدیث نمبر 4:

وَهُزْمَ مَلَأَمَ مَهْكَتاً هُوا بِهِوْلَ:

حضرت ابو طالب نبی اکرم ﷺ کے حسن کے متعلق فرماتے ہیں۔

“فَإِذَا هُوَ فِي غَایَةِ الْلَّینِ وَ طِیْبِ الرَّائِحَةِ كَانَهُ غُمْسَ فِي
الْمِسْكِ”

حوالہ: (مفاتیح الغیب (فسیر کبیر، ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن الرازی، دار الاحباء،
التراث العربي بیروت، ۱۹۴۲ء، تحت سورۃ الفتح آیت: ۶، ج ۳۱، ص ۱۹۶)

کہ نبی اکرم ﷺ کی جلد نہایت ہی نرم تھی اور اس کی مہک ایسی تھی جیسے کی آپ ﷺ کو خوشبو سے نہلا�ا گیا ہو۔

شرح:

حضور ﷺ کی جلد بہت زیادہ نرم و ملائم تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر زم چیز کو مخبو امگر جو ملائمت نبی کریم ﷺ کے ہاتھ مبارک کی تھی وہ کسی اور چیز میں نہ پائی، اور بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ

آپ ﷺ کے ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم و مامِ تھے اور برف سے زیادہ سختے بھی تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے بالوں کی مہک:

امام الحکمین مولانا نقی علی خاں والد ماجد امام احمد رضا خاں بریلوی علیہما الرحمۃ
نبی اکرم ﷺ کے بالوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

”آپ ﷺ کے بالوں سے خوبی پیش آتیں اور چمکتے رہتے جس
بیکار کو آپ ﷺ کے بال دھو کر پلا دیتے تو رأاً چھا ہو جاتا“

سرالہ: (انوار جمال مصطفیٰ ﷺ، مولانا نقی علی خاں، زاویہ بیلشرز لاہور، ص ۲۲۹)

حضرت محمد بن سرین تابعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

عَنْ أَبْنَى سِيرِينَ قَلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ مَلِكِ الْجَنَّاتِ أَصْبَنَاهُ
مِنْ قِبْلِ أَنَّسِ أَوْ مِنْ قِبْلِ أَهْلِ أَنَّسٍ فَقَالَ لَآنْ تَكُونَ عِنْدِي
شَعْرَ قَعْدَةَ أَحَبُّ إِلَيْيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا“

تحریج: (محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ- امام صاحب صحیح بخاری (لاہور، مکتب
حسانیہ) کتاب الوضو، باب الماء الذی یفضل به شعر الانسان، ج ۱ ص ۹۱)

حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے عبیدہ کو کہا ہمارے پاس
حضور ﷺ کے بال ہیں جن کو ہم نے حضرت انس سے یا حضرت انس
کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے عبیدہ نے کہا اگر ان بالوں میں سے ایک
بال بھی میرے پاس ہوتا تو مجھے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا۔

شانِ رحمت ہے کہ شانہ نہ جدا ہو دم بھر۔

سینہ چاکوں پر کچھ اس درجہ ہیں پیارے گیسو

امام ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي عليه الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”کانَتْ شَفَرَاتٍ مِّنْ شَفَرٍ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَلْنَسَوَةِ خَالِدٍ
بْنِ الْوَلِيدِ فَلَمْ يَشْهُدْ بِهَا قِتَالًا إِلَّا رُزِقَ النُّصْرًا“

پڑخربیح: (ابو عبد الله محمد بن احمد، القرطبی، متوفی ۶۷۱ھ، الاعلام بما فی دین النصاری من الفساد والاوہام واظہار محسن اسلام، دار التراث للعربی، القاهرہ، ص ۳۷۱)

حضور ﷺ کے بالوں میں سے کچھ بال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت میں تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی کو پہن کر ہر میدان میں نکلتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقدار میں اس ٹوپی کی وجہ سے فتح لکھ دیتا۔

اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں نے کیا خوب کہا کہ۔

مشک بو کوچہ یہ کس پھول کا جھاڑا ان سے
حور یو غبر سارا ہوئے سارے گیسو
بھنی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ
کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو
کہ یہ گلی کوچوں کو کس کا جھاڑا (اتارا) نصیب ہوا کہ مشک کی خوشبو آرہی ہے
اور اے جنت کی حور! ہمارے آقا ﷺ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کے سارے
کے سارے گیسو (زلفیں) خالص ہنبر ہیں۔

اور اے میرے مولا تم نے اپنے محبوب ﷺ کی زلفوں کو کس باغ کے پھولوں سے بسایا ہے کہ جدھر جاتے ہیں تیری ذات کی حشم کوچہ و بازار مہک جاتے ہیں ایسی خوشبو دنیا کے کسی پھول سے نہیں ملتی یقیناً تم نے کسی خاص پھولوں کے ساتھ اپنے

محبوب کے گیسو سنوارے ہیں۔

حدیث نمبر 5:

نبی اکرم ﷺ کے جسم اقدس کی مہک:

”وقال أنس رضى الله تعالى عنه: شمت العطر كله فلم

أشم نكهة أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی و الرشاد، المتوفی ۱۰۹۵ھ، ج ۲، الباب الثامن، ص ۳۰، مکتبہ نعمانیہ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عطر سو نگھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی خوبی سے اعلیٰ و عمدہ خوبی سو نگھی۔

حدیث نمبر 6:

اسی حدیث کو امام مسلم نے الفاظ کے تغیر کے ساتھ بیان کیا

”عن أنس بن مالك رضى الله تعالى قال ولا مست

دياجة ولا حريرة الين من كف رسول الله ﷺ ولا شمت

مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله ﷺ“

حوالہ: صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب طیب رائحة النبي ﷺ، حدیث: ۶۰۵۴، ج ۲، ص ۲۶۲، مکتبہ رحمانیہ لاہور

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے کوئی دیاج اور نہ کوئی ریشم ایسی چھوٹی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کوئی مشک و عنبر ایسی نہیں سو نگھی جو رسول اللہ ﷺ (کے جسم) کی خوبی سے زیادہ پا کیزہ ہو۔

حدیث نمبر 7:

”قال أنس رضي الله تعالى عنه: كل ريح طيب قد شمت
فما شمت قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وكل شيء لين قد مسست فما مسست شيئاً قط ألين
 من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماعت
ابواب صفة حسنہ الشریف مَلَكُ الْجَنَّاتِ ج ۲، الباب الناسع عشر، ص ۸۶، مکتبہ نعماں پشاور)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر اچھی خوبی کو میں نے
سوئیکیں رسول اللہ مَلَكُ الْجَنَّاتِ کی خوبی سے عمدہ خوبی کبھی نہ سوئیکی، اور ہر
زم چیز کو میں نے سوئیکیں رسول اللہ مَلَكُ الْجَنَّاتِ کی ہتھیلی سے زیادہ زم کسی
چیز کو نہ پایا۔

حدیث نمبر 8:

”حدثنا سليمان بن حرب ثنا عن حماد عن ثابت عن انس
قال ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف النبي مَلَكُ الْجَنَّاتِ
وَلَا شَمَسْتَ رِيحًا قَطْ أَوْ عَرْفًا قَطْ أَطْيَبُ مِنْ رِيحٍ أَوْ عَرْفٍ
النَّبِيُّ مَلَكُ الْجَنَّاتِ“

حوالہ: محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ- امام- صحیح بخاری (لاہور، مکتبہ
رحمانیہ) کتاب المناقب، باب صفة النبي مَلَكُ الْجَنَّاتِ، ج ۱ ص ۶۲۹

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ میں نے کوئی
رشم اور دیباچہ ایسا نہیں چھوایا جو نبی کریم مَلَكُ الْجَنَّاتِ کی ہتھیلی سے زیادہ زم ہو

اور میں نے کوئی خوبونہ سو نگھی جو نبی کریم ﷺ کی خوبی سے زیادہ عمدہ ہو۔

شرح:

ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ احمد بن عبد الفتاح فرماتے ہیں کہ

“فَالْبَدْ أَطْيَبُ مِنَ الْمَسْكِ وَالْجَلْدِ الْبَيْنُ مِنَ الْحَرِيرِ
وَالْمَلْمَسُ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ”

حوالہ: (احمد بن عبد الفتاح، شمائل الرسول ﷺ، الفائدة الثانية، ج ۱، ص ۱۹۴، دار القمة الاسکندریۃ)

کہ حضور ﷺ کا ہاتھ مشک سے زیادہ خوبودار اور جلد ریشم سے زیادہ نرم اور جب کوئی آپ ﷺ کو چھوتا تو اس کو آپ ﷺ کی جلد برف سے زیادہ ٹھنڈی محسوس ہوتی۔

ان احادیث میں بیان ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کا عطر سو نگھا لیکن جو مہک حضور ﷺ کی تھی ایسی مہک نہ سو نگھی کیونکہ یہ دنیا کے عطر کسی عطار نے تیار کیے ہوں گے لیکن جو خوبی میرے محظوظ ﷺ سے آتی تھی وہ کسی عطار نے نہیں بنائی تھی بلکہ وہ اُس ذات نے آپ ﷺ کے جسم اقدس میں رکھی جس نے پھول اور کلیوں کو مہکایا ہے اور ایسی خوبی کہاں سے ملتی؟ کیونکہ جس طرح میرے محظوظ ﷺ کی کوئی مثل نہیں اسی طرح آپ ﷺ کی مہک کی بھی کوئی مثل نہیں۔

انہیں کی بو ما پرہ سمن ہے انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے
انہیں سے گلشن مہک رہے ہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے

عنبر کی تعریف:

ملاعلی قاری حنفی علیہ الرحمۃ عنبر اور مشک کی تعریف یوں کرتے ہیں۔

”عنبر اہو شیء لفظہ البحر أی رمی به و یقال إنه روث دابة من دواب البحر ولا يصح وأصول الطیب خمسة أصناف المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران“

حوالہ: (شرح شفاء، ملاعلی قاری، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلی جل و عز، الباب الثاني فی تکمیل اللہ تعالیٰ لہ المحسان خلقاً و خلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طبیبه، ج ۱، ص ۱۶۵)

عنبر وہ چیز ہے جس کو سمندر پھینکتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عنبر سمندری جانوروں کے گوبر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں، اور اصل خوشبوئیں پانچ ہیں۔ ۱۔ مشک، ۲۔ کافور، ۳۔ عود، ۴۔ عنبر، ۵۔ زعفران۔

مشک کی تعریف:

اور مشک کی تعریف کرتے ہوئے ملاعلی قاری فرماتے ہیں۔

”والمسك ما خرج من الظباء بعد بلوع النهاية في النضح وغزلان المسك نوع خاص من الظباء“

حوالہ: (شرح شفاء، ملاعلی قاری، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلی جل و عز، الباب الثاني فی تکمیل اللہ تعالیٰ لہ المحسان خلقاً و خلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طبیبه، ج ۱، ص ۱۶۵، بتصرف ۱۶۶)

اور جو ہرن سے مکمل طور پر پکنے کے بعد خارج ہوتا ہے اس کو مشک کہتے ہیں، اور ”غزلان مشک“ ہرن کی ایک خاص قسم سے پیدا ہوتی ہے۔

اعلیٰ حضرت امام المسیح بنی کریم ﷺ کے جسم مبارک کی ملامت اور مہک کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ

سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول
لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول
کہ تاجدار زمانہ حبیب یگانہ ملائیل سرانور سے لے کر قدم مبارک تک پھول
(اطافت والے) ہیں ہونٹ، منہ، ٹھوڑی اور سارا جسم اقدس پھول کی طرح نرم و ملائم
اور مہکتا ہے۔

حدیث نمبر 9:

“قال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه: كت أسيير مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدن مني فدنوت منه .
فما شمت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله
صلى الله عليه وسلم”

حوالہ جات: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سیل الهدی والرشاد، المتنوفی ۹۵۴، جما
ع ابواب صفة حسنه الشریف ملائیل ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۷، مکتبہ نعمانیہ پشاور،
☆امام یوسف بن اسماعیل النہانی، متوفی ۱۳۵هـ جامع المعجزات، الفصل الثالث، الباب الثاني عشر،
ص ۴۸۸، قدیمی کتب خانہ،
☆الخصالص الکبری ج ۱، باب فی عرقہ الشریف، ص ۱۱۶ (رحمانیہ)

حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول
الله ﷺ کے ساتھ سفر کر رہا تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے قریب ہو
جاو تو میں آپ ﷺ کے قریب ہو گیا (یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل
نے نبی اکرم ﷺ کے جسم کی خوبیوں کو سوچا تو فرمایا) پس میں نے کوئی
مشک اور عنبر نہیں سوچی جو رسول اللہ ﷺ کی خوبیوں سے عمدہ ہو۔

شرح:

اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ سے قرب بیان کیا گیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے کتنے قریبی اور جان شمار صحابی تھے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو فرمایا کہ اے احمد قریب ہو جاؤ اے محمد قریب ہو جاؤ اور حضور ﷺ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے ہیں کہ قریب ہو جاؤ، "سُبْحَانَ اللَّهِ" اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ جب میں نبی کریم ﷺ کے قریب ہوا تو میرا منہ آپ ﷺ کی مہر نبوت کو لگ رہا تھا تو مجھے آپ ﷺ کی مہر نبوت سے مشک و غبر سے اعلیٰ خوشبو سونگھنے کو ملی۔

تخریج: (شرح شفاء، ملأ علىٰ قاری، القسم الاول في تعظيم العلی الا على جل و عز، البهاب الثاني في تكميل الله تعالیٰ له المحسن خلقاً و خلقاً، فصل واما نظافة جسمه و طيبه، ج ۱، ص ۱۶۷)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں کیا خوب ترجمانی کرتے ہیں۔

بوسہ گہر اصحاب وہ مہر سامی
وہ شانہ چپ میں اُس کی غبر فامی
یہ طرفہ کہ ہے کعبہ جان و دل میں
سنگ اسود نصیب رکن شامی

حدیث نمبر 10:

قال وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: لقد كنت أصالح
النبي صلی اللہ علیہ وسلم او یمس جلدی جلدہ فلما تعرف له

بعد في يدي فإنه لأطيب رائحة من المسك.

تخریج: (امام محمد بن يوسف الصالحی الشافعی، سبل الهدی و المرشد، المتوفی ۹۵۰ھ، حما
ع ابواب صفة حسنه الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۶، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت واکل بن جمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم ﷺ
کے ساتھ مصافحہ کرتا یا کبھی میرا جسم آپ ﷺ کے جسم مبارک کے ساتھ
میں ہوتا تو مجھے بعد میں ایسا لگتا تھا کہ میں نے مشک کی خوبیوں کای ہے۔

حدیث نمبر 11:

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا نعرف رسول اللہ ﷺ
اذا اقبل بطیب ریحه.

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ
آتے تو ہم آپ ﷺ کی خوبیوں کی وجہ سے جان جاتے (کہ آپ ﷺ
تشریف لارہے ہیں)۔

تخریج: (ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي متوفی ۱۶۵ھ، شرح السنة
للبغوي باب الطیب ریحہ ﷺ، ج ۱۲، ص ۲۲۲،
☆ الحصالص الكبير ج ۱، باب الآیقون عرقہ الشریف ﷺ، ص ۱۱۴، رحمانیہ)

حدیث نمبر 12:

“عن ابراهیم النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان
رسول ﷺ یعرف باللیل بریح الطیب”

تخریج: (امام يوسف بن اسماعیل البهانی، متوفی ۱۳۵ھ، جامع المعزات، القسم الثالث،
الباب الثاني عشر، ص ۴۸۸، قدیمی کتب عمان،
☆ الحصالص الكبير ج ۱، باب الآیقون عرقہ الشریف ﷺ، ص ۱۱۵ (رحمانیہ))

حضرت ابراہیم نجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو پاکیزہ خوشبو کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔

شرح:

ان دونوں حدیثوں میں سے ایک میں یہ بیان ہوا کہ جب حضور ﷺ ہماری طرف آتے تو ہم آپ ﷺ کی مہک کی وجہ سے پہنچان لیتے کہ حضور ﷺ تشریف لارہے ہیں اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب رات کے وقت حضور ﷺ ہماری طرف آتے تو ہم آپ ﷺ کی مہک کی وجہ سے جان لیتے کہ نبی اکرم ﷺ آرہے ہیں۔

یعنی دن کے وقت صحابہ کرام کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تو نبی اکرم ﷺ کی مہک ان کی توجہ حضور ﷺ کی طرف کروادیتی کہ اٹھونبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری ہو رہی ہے با ادب کھڑے ہو جاؤ یا رات کی تاریکی کی وجہ سے صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم ﷺ کی آمد پرواقد نہ ہوتے تو وہ حضور ﷺ کی مہک سے جان لیتے کہ آقا نامدار جلوہ فرمانے لگے ہیں لہذا وہ حضور ﷺ کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے۔

اور رات کے وقت بھی آپ ﷺ کی مہک بکھر جاتی تاکہ رات کی رانی کا پودا یہ نہ کہے کہ میں رات کو خوشبو بکھیرتا ہوں تو ہے کوئی مجھ جیسا؟ تو حضور ﷺ کو یہ بھی خوبی عطا کی گئی کہ کوئی بھی حضور ﷺ کی عظمت اور رفتہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

وہ خدا نے ہے رتبہ تجوہ کو دیانتہ کسی کو ملنے نہ کسی کو ملا

کہ کلامِ مجید نے کھائی شہر تے شہر و کلام و بقا کی قسم

حدیث نمبر 13:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ میں نے دس سال تک حبیب اکرم ﷺ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل کیا اور ہر قسم کے عطر سو نگھے اور ان کی خوبیوں کا اچھی طرح اندازہ لگایا لیکن نبی اکرم ﷺ کی نگہت اقدس اور طیب روح اور جسد اطہر سے پھونٹنے والی خوبی اور مہک بالکل زر الی تھی (یعنی دنیا کے مشک و غربو غیرہ کا اس کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں تھا)۔

درالز میں کہ نیسے وز و طرہ یار چہ جائے دم زدن ناقہ ہائے تاتاریست
حوالہ: (عبد الرحمن ابن حوزی، الوفا باحوال المصطفیٰ ﷺ، مترجم علامہ مفتی محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمۃ، حامد اینڈ کمپنی (فرید بکشال) لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۴۴۶)

شرح:

اس حدیث اور مذکورہ بالا احادیث کی شرح میں چند اقوال ائمہ کرام نقل کیے جاتے ہیں۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طيب.

اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پاکیزہ خوبیوں بذات خود رسول اللہ ﷺ (کے جسم اطہر) کی تھی نہ کہ کوئی خوبیوں کے سے۔

تخریج: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی و الرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماع ابواب صفة حسنه الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۸، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

وَهَذَا مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَالُوا: وَكَانَتِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ
صَفَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَمْسِ طَيِّبًا وَمَعَ هَذَا كَانَ
يَسْتَعْمَلُ الطَّيِّبَ فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ مُبَالَغَةً فِي طَيِّبِ رِيحِهِ
لِمَلَاقَةِ الْمَلَائِكَةِ وَأَخْذِ الْوَحْىِ وَمِجَالَسِ الْمُسْلِمِينَ“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالھی الشامی، سبل الھدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماعت
ابواب صفة حسنه الشریف ﷺ ج ۲، الباب الناسع عشر، ص ۸۸، مکتبہ نعمانیہ پشاور،
العلی بن سلطان محمد الملا علی فاری حنفی متوفی ۱۰۱۰ھ، مرفاہ شرح مشکوہ، باب اسماء
السی ﷺ ج ۹، ص مبیسل ۳۷۰۲)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ (آپ ﷺ کے جسم سے خوبیو
آن) ان چیزوں میں سے ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو
عزت دی ہے اگر آپ ﷺ خوبیو کو استعمال نہ بھی کرتے تو بھی
آپ ﷺ خوبیو آتی لیکن اکثر اوقات میں آپ ﷺ خوبیو کو استعمال
فرماتے تاکہ آپ ﷺ کی خوبیو اور زیادہ ہو جائے کیونکہ آپ ﷺ
فرشتوں سے ملتے آپ ﷺ پر وحی کا نزول ہوتا اور انہیں لیے بھی کہ آپ
مسلمانوں میں بیٹھتے تھے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”یکے از طبقات عجیب آنحضرت طیب روح است کہ ذاتے وے ﷺ
بود بے آنکہ استعمال طیب از خارج کند و یعنی طیب بدال نمی رسد“

حوالہ: (مدارج النبوة: ج ۱، ص ۲۹)

حضور ﷺ کی مبارک صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر خوبیو کے استعمال

کے حضور ﷺ کے جسم اقدس سے ایسی خوشبو آتی جس کا مقابلہ کوئی خوشبو نہ کر سکتی۔

علامہ احمد عبد الجواد الدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

“کان رسولُ اللَّهِ مَلَائِكَةً طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ طَيِّبٍ وَ لَكُنَّهُ كَانَ يَتَطَبَّبُ وَ يَتَعَطَّرُ تَوْكِيدًا لِرَأْيَهُ وَ زِيادةً فِي أَذْكَارِهِ”

حوالہ: (الاتحافات الربانیہ لدومی، ص ۲۶۳)

حضور ﷺ کا جسم شریف خوشبو کے استعمال کے بغیر بھی مہکتا تھا لیکن حضور ﷺ اس کے باوجود پاکیزگی و نظافت میں اضافہ کے لیے خوشبو استعمال فرمائیتے تھے۔

شیخ ابراهیم بن حوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

“وَ قَدْ كَانَ مَلَائِكَةً طَيِّبَ الرَّأْيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَمْسِ طَيِّبًا كَمَا جَاءَ ذَلِكُ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ لَكُنَّهُ كَانَ يَسْتَعْمِلُ الطَّيِّبَ زِيادةً فِي طَيِّبِ الرَّأْيَهُ”

حوالہ: (شرح شمائل ترمذی، ص ۳۷۸)

احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور ﷺ کے جسم مبارک سے خوشبو کی مہک بغیر خوشبو کے آتی تھی۔ لیکن آپ ﷺ خوشبو کا استعمال خوشبو میں اضافی کے لیے کرتے تھے۔

یا آپ ﷺ اس لیے خوشبو کو استعمال فرماتے تاکہ میری امت پر اس کی خلت ظاہر ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ خوشبو لگانا میری سنت ہے۔ حالانکہ آپ ﷺ کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ ﷺ کا جسم تو بطور معجزہ ہر وقت مہکتا رہتا تھا جیسا کہ ماقبل ذکر کیا گیا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ خوشبوؤں کو جو مقام

و مرتبہ طاواہ نبی اکرم ﷺ کے ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہی ملا۔ ابو الحمد غفرلہ،“

حدیث نمبر 14:

”روی ابن مرسدیہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْذَ أَسْرِی بِهِ رِيحَهُ رِيحَ عَرْوَسٍ وَأَطِيبُ مِنْ رِيحِ عَرْوَسٍ“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماع ابواب صفة حسنہ الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۸، مکہ نعمانیہ پشاور)

امام ابن مرسدیہ علیہ الرحمۃ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مراجع کرائی گئی تو آپ ﷺ کی خوبصورتی کی خوبیوں کی خوبی سے عمدہ ہو گی۔

شرح:

نبی اکرم ﷺ کے جسم کی مہک آپ ﷺ کے مراجع کرنے سے پہلے بھی عمدہ اور اعلیٰ تھی جیسا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ماقبل گزری کہ، ”جب آپ ﷺ کی پیدائش ہوئی تو آپ ﷺ سے کنتوری سے پاکیزہ خوبیوں کی تھی اور جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر فرمایا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ کے جسم کی مہک میں مزید اضافہ کیا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، ابوالحمد غفرلہ“

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صراحی کی رات جو قدرتی طور پر خوبیوں کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ

دہن کی خوبیوں سے مست کپڑے نیم گستاخ آنجلوں سے
غلافِ مشکیں جو اُزر ہاتھا غزال نافے بارے ہے تھے
براق کے نقشِ سُم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے
مہکتے گلبن، لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہبار ہے تھے
کہ معراج کی مدات کعبہ مغضمه کے خوبیوں دار غلاف سے باڈیم بڑی چالاکی کے
ساتھ کھیل کو دکر کے خوبیوں پر ارہی تھی اور خوبیوں میں باہو اغلاف کعبہ وجد میں جھوم رہا
تھا اور حضور ﷺ کی وجہ سے اتنی خوبیوں پھیل گئی کہ ہر ان اپنی تھلیاں بھر بھر کر لے جا
رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یقیناً یہ تمام تر سخاوتیں خود حضور ﷺ کی ذات مبارکہ ہی کر
رہی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے قاسم مطلق بناؤ کر بھیجا۔

اور حضور ﷺ کی سواری (براق) کے کھروں کے نشانات پر جان شارکروں کہ
اس نے ایسے ایسے پھول کھلائے کہ تمام راستے میں سرخ گلاب کے پھول مہک رہے
تھے باغات سر بز اور ہر طرف ہر یا لی ہی ہر یا لی تھی کہ ایسی بھار پہلے سوائے شب
ولادتِ مصطفیٰ ﷺ کے کبھی نہ آئی تھی اور بعد میں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

کسی نے کیا خوب کہا کہ

نکہت ورنگ و نور کا عالم

ذرے ذرے میں طور کا عالم

کیا بتاؤں بیاں سے باہر ہے

شب اسری حضور کا عالم

(ﷺ)

حدیث نمبر 15:

حضرات کرم ﷺ کے دہن، لعاب دہن کی مہک مبارکہ علامہ قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ نے شفائریف میں نقل کیا: واتی بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار اطيب من المسك۔ آپ ﷺ کے پاس زمزم کے پانی کا ایک ڈول لا یا گیا تو آپ ﷺ نے اس میں کلی مبارک فرمائی پس وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہو گیا۔

تخریج: (القاضی ابو الفضل عیاض مالکی علیہ الرحمۃ، متوفی ۴۵۰ھ، الشفا بتعريف حرف حرف مصطفیٰ، ص ۲۰۹، مکتبہ شانِ اسلام محلہ جنگی پشاور)

حدیث نمبر 16:

عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ قال اتی النبی ﷺ بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب في البتر او قال ثم مج في البتر ففاح منها مثل رائحة المسك.

حوالہ: (امام یوسف بن اسماعیل النبہانی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المعزات، القسم الثالث، الباب الثاني عشر ص ۴۸۴، قدیمی کتب خانہ، امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۵۹۵ھ ج ۲، الباب الثامن، ص ۳۰، مکتبہ نعمانیہ)

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک ڈول لا یا گیا جس میں پانی تھا آپ ﷺ نے ڈول سے کچھ پانی پیا پھر اس ڈول کو کنویں میں ڈال دیا یا فرمایا کہ آپ ﷺ نے کنویں میں کلی فرمائی تو کنویں سے کستوری جیسی خوشبو آنے لگی۔

شرح:

ان دو حدیثوں میں ایک میں صرف پانی کے ڈول کا ذکر ہے اور دوسری میں زم زم کے پانی کے ڈول کا ذکر کہ ہو سکتا ہے کہ دو واقعات و مختلف مقامات وقوع پذیر ہوئے ہوں۔

امام محمد بن یوسف الصالحی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

“أَتَى بَدْلُو فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَتَمَضْمِضَ وَمَجَ مَسْكًا أَوْ أَطِيبَ مِنَ
الْمَسْكِ”

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الہدی والرشاد، المتنفی ۴، ۵۹۵، ج ۲،
الباب الثامن، ص ۳۰، مکتبہ نعمانیہ)

آپ ﷺ کے پاس ایک ڈول لا یا گیا تو آپ ﷺ نے اس میں کلی فرمائی تو اس سے مشک بلکہ اس سے بھی عمدہ خوشبو مہکنے لگی۔

عام آدمی کے منہ سے تھوک یا کوئی اور چیز کسی کھانے میں غلطی سے بھی مگر جائے تو لوگ اس کھانے کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن نبی اکرم ﷺ نے جان بوجھ کر اور سب کے سامنے کنوں میں کلی فرمائی پھر بھی ہر کسی شخص نے اس کے پانی کو پسند کیا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور ﷺ نے کڑوے کنوں میں کلی فرمائی تو وہ میٹھا ہو گیا اور لوگ اس کا پانی پہلے کڑواہٹ کی وجہ سے نہ پتے تھے لیکن جب آپ ﷺ کے کلی فرمانے کی وجہ سے اس میں مٹھاں پیدا ہو گئی تو اس کو پینا شروع کر دیا۔

جس کے پانی سے شاداب جان و جنما
اس دہن کی طراوت پر لا کھوں سلام

جس سے کھاری کنوں شیرہ جاں بنے
اس زلائی حلاوت پہ لاکھوں سلام

حدیث نمبر 17:

”وقالت عميرة بنت سمعود الأنصارية رضى الله تعالى عنها: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخواتي وهن خمس فوجدنا يأكل قديدا فمضغ لهن قديسة ثم ناولني الجديدة فقسمتها بينهن. وفمضفت كل واحدة قطعة فلقين الله وما وجد لأفواهن خلوف.“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتنوفی ۹۵۴ھ، جماعت ابواب صفة حسنہ الشریف مَلِكُ الْجَنَّاتِ ج ۲، الباب الثامن، ص ۳۱، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت عمیرہ بنت سمعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میری پانچ بہنیں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں آپ ﷺ اس وقت قدید تناول فرماتے تھے تو آپ ﷺ نے میری بہنوں کے لیے قدید (ایک عربی کھانا) چبایا (یعنی اپنے منہ میں چبایا) اور پھر مجھے دیا تو میں نے ان کو بانٹ کر دیا اُن میں سے ہر ایک نے وہ حصہ کھالیا تو میری اُن بہنوں کے منہ سے آخری دم تک بدبو نہ آئی (یعنی آخری دم تک اُن کے منہ حضور ﷺ کے تھوک مہار کہ کی برکت سے مہکتے رہے)

شرح:

اس حدیث میں بیان ہوا کہ حضور ﷺ نے لڑکیوں کو جب قدید چبایا تو انہوں نے اس قدید کو کھالیا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان لڑکیوں کے منہ آخری دم تک

مہکتے رہے۔

حضر اکرم ﷺ کا لعاب دہن:

یہ حضور ﷺ کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ جس منہ میں چلا جائے وہ مہکتا ہی رہتا ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک بذبان عورت تھی ایک دفعہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ اس وقت کھانا تناول فرمائے ہے تھے یہ عورت آپ ﷺ سے کہنے لگی کہ مجھے بھی عطا فرمائیں تو آپ ﷺ نے اس کو کھانا دے دیا تو وہ بولی نہیں میں تو وہ کھاؤں گی جو آپ ﷺ کے منہ مبارک میں ہے تو حضور ذات نے تو کبھی کسی سائل کو "نہ" نہیں فرمائی آپ ﷺ نے اپنے منہ سے کھانا نکالا اور اس عورت کو دیا صاحبہ فرماتے ہیں کہ پہلے مدینہ میں اس عورت سے زیادہ بد زبان کوئی نہ تھا لیکن جب حضور ﷺ کے لعاب دہن سے ترکھانا اس عورت کے منہ میں گیا تو وہ مدینہ میں سب سے زیادہ حیاء والی ہو گئی۔

حوالہ: (المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني المتوفى ٣٦٠، باب الصاد، ابو عبد الرحيم خالد بن أبيه، ج ٨، ص ٢٣١، حدیث نمبر: 7903)

اور حضور ﷺ کا لعاب دہن وہ ہے کہ علامہ سعد الدین ثفتازانی علیہ الرحمۃ شارح عقائد سنفی فرماتے ہیں۔ کہ مجھے دوران طالب علمی سبق یاد نہ ہوتا تھا لیکن میں ہر وقت محنت کرتا رہتا تھا اور سبق یاد کرتا رہتا لیکن جب استاد صاحب کے سامنے جاتا تو سب کچھ بھول جاتا ایک دن خواب میں میرے مقدر جاگ اٹھے اور حضور ﷺ تشریف لائے اور میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جب علامہ سعد الدین ثفتازانی علیہ الرحمۃ کے منہ میں جاتا ہے تو آپ کے زبان کی بندش ختم ہو جاتی ہے اور اس زبان

سے ایسے ایسے علمی نکات نکلتے ہیں کہ جو علامہ سعد الدین تفتازانی نے کسی سے اور پڑھے بھی نہیں اور صبح کو آپ کے أستاد بھی فرماتے ہیں اے سعد الدین تو کل والا سعد الدین نہیں ہے اسی لعاب دہن نے آپ علیہ الرحمۃ کو وقت کا علامہ بنادیا کہ تمام علماء آپ علیہ الرحمۃ کی علمی برتری کا اعتراف کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔

حدیث نمبر 18:

”وَقَالَ عَتَبَةُ بْنُ فَرْقَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَصَابَنِ الْمَ فَجَئْتَهُ
فَتَفَلَّ فِي يَدِيهِ وَمَسَحَ ظَهَرَى وَبَطْنَى فَذَهَبَ الْأَلْمُ وَلَا زَمْنِى
رِيحٌ أَطِيبٌ مِّنَ الْمَسْكِ“

حوالہ: (احمد بن حسین بن علی بن الخطیب، متوفی ۷۸۱ھ، وسیلة الاسلام بالبنی علیہ الصلوٰۃ والسلام، دار الغرب الاسلامی بیروت، ۱۹۸۴ء، ج ۱، ص ۱۳۲)

حضرت عتبہ بن فرقہ فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی تو میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک پر اپنا لعاب دہن ڈال کر میرے پیٹ اور پشت پر پھیرا تو میری تکلیف دور ہو گئی اور اسی دن سے مجھ سے مشک سے اعلیٰ خوشبو آنے لگ پڑی۔

حدیث نمبر 19:

عَنْ أُمِّ عَاصِمٍ أَمْرَأَةِ عَتَبَةِ بْنِ فَرْقَدِ قَالَتْ كَنْتْ عِنْدَ عَتَبَةَ أَرْبَعَ
نِسَوَةً مَا مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا رَهِيَتْ جَهْدَهُ فِي الطَّيْبِ لِتَكُونَ أَطِيبُ
مِنْ صَاحِبَتِهَا وَمَا يَمْسِ عَتَبَةُ الطَّيْبِ وَهُوَ أَطِيبُ رِيحِهَا
وَكَانَ إِلَى خَرْجِ النَّاسِ قَالُوا مَا شَمْنَا رِيحًا أَطِيبَ رِيحًا
مِنْ رِيحِ عَتَبَةٍ فَقَلَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَخْدُنِي الشَّرِيْعَةُ عَلَى

عهد رسول اللہ ﷺ فشکوت ذلک الیہ فامرني ان
اتجرد تجردت و قعدت بین يديه والقيت ثوابی علی فرجی
فنفت فی يده ثم وضع يده علی ظهری وبطنی فعقب بی هذا
الطيب من يومئذ.

تخریج: (امام یوسف بن اسماعیل النبهانی، جامع المعجزات، فصل ثانی ص ۲۱۵، قدیسی
کتب خانہ)

حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عتبہ بن فرقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی زوجہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عتبہ کی چار بیویاں
تحصیس ہم میں سے ہر ایک دوسری سے عمدہ خوشبو لگانے کی کوشش کرتی
لیکن جو خوشبو ہمیں عتبہ سے آتی تھی وہ ہماری خوشبو سے کئی گناہ پڑتھی
حضرت عتبہ جب بھی لوگوں کے پاس سے گزرتے تو لوحہ کہتے کہ ہم نے
عتبہ جیسی خوشبو آج تک نہیں سوچ لگھی۔ ہم نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں میرے جسم
پر پھنسیاں ظاہر ہوئیں۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنی بیماری
کی شکایت کی آپ ﷺ نے مجھے جسم نگاہرنے کا حکم دیا میں نے کپڑے
أتاردیئے اور اپنا ستر چھپا کر آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ
نے اپنے دست اقدس پر اپنا العابد ہن لگا کر میری پشت اور میرے پیٹ پر
مل دیا اسی دن سے میری بیماری بھی جاتی رہی اور مجھہ میں یہ خوشبو پیدا ہو
گئی۔

حدیث نمبر 20:

ایک روایت میں اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں:

قالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقان رضي الله تعالى عنها:
كنا نتطيب ونجهد لعتبة بن فرقان أن نبلغه فما نبلغه وربما
لم يمس عتبة طيبا فقلنا له فقال: أخذنى البشر على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فتفل في كفه ثم
مسح جلدی فكنت من أطيب الناس ريحـا

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الہدی والرشاد، المتوفی ۵۹۵ھ، ج ۲،
الباب الثامن، ص ۳۱، مکتبہ نعمانیہ)

حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہا
فرماتی ہیں کہ ہم خوبیوں کا تین تھیں اور حضرت عتبہ خوبیوں میں لگاتے تھے
لیکن پھر بھی ان سے خوبیوں کی رہتی تھی ہم نے اس کا سبب پوچھا تو
حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں
میرے جسم پر پھنسیاں ظاہر ہوئیں۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا
آپ ﷺ نے اپنے دست اقدس پر اپنا عابد ہن لگا کر میری پشت اور
میرے پیٹ پر مل دیا تو اس دن سے میں لوگوں میں سے زیادہ خوبیوں والا
ہو گیا۔

شرح:

ان احادیث میں بیان ہوا کہ حضرت عتبہ بن فرقان رضی اللہ عنہ کو جب تکلیف
ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام طبیب یا ذا اکثر کے پاس نہیں گے بلکہ اس ہستی

کے پاس حاضر ہوئے جن کو رب کائنات نے طبیب الارواح والابدان بنانے کے بھیجا ہے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ تمام مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی جسمانی تکلیف ہو یا روحانی کسی قسم کی بھی ہو حضور ﷺ ہر تکلیف کو دور فرمادیتے ہیں۔

اس طرح کے واقعات کتب احادیث میں بہت زیادہ ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور ﷺ کے لعاب دہن کی وجہ سے شفاء ملی مثلاً جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا تو آپ ﷺ نے اُس پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گے۔

حضرت رفاعة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ جب تیر لگنے سے بھوت گئی تو آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گی۔

حوالہ: (خصائص کبریٰ، ذکر المعجزات الواقعة في الغزوات، ج ۱، ص ۳۲۸)

اور اسی طرح جب غزوہ خیبر کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو تکلیف ہوئی تو وہ بھی حضور ﷺ کے لعاب دہن کی وجہ سے ہی دور ہوئی۔

حوالہ: (بخاری شریف، باب الدعا النبی ﷺ، ج ۴، ص ۴۷، حدیث نمبر: ۴۹۴۲؛ ج ۵، ص ۱۲۴، حدیث نمبر: ۴۲۱۰)

امام اعظم علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا

و علی من رمد به داویته فی خیر فشفی بطیب لماک

• (قصيدة نعمان)

حضرت حارث بن سراقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ میں ان کی والدہ اور بہن کو ملی، تو ان کو بہت صدمہ ہوا

حضور ﷺ بدرو سے واپس تشریف لائے تو حضرت حارث بن سراقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو خوشی کا مقام ہے اور ورنے کی ضرورت نہیں، اگر دوزخ میں ہے تو خدا کی قسم میں چلا چلا کر روں گی حضور ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم تمہارا بیٹا جنت میں ہے۔

وہ کہنے لگیں کہ میں اب نہیں روں گی تو حضور ﷺ نے پانی کا ایک پیالہ طلب کیا اور اس میں اپنے ہاتھ دھوئے اور کلی فرمائی اور یہ پانی حضرت حارث بن سراقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور بہن کو پلا دیا اور فرمایا کہ اس پانی کو تھوڑا سا لے کر اپنے گریبانوں پر بھی چھڑک لو ان دونوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے گھر چل گئیں راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں کوئی عورت ان سے زیادہ خوش نہ تھی۔

حوالہ: (مفاصد اسلام، ص ۲۵۵ بحوالہ ذکر جمیل ص ۱۵۳، ابن ابی شیبہ: ۳۶۷۱۳، کنز العمال: ۳۰۰۲۴)

مزید واقعات کے لیے کتب سیرت و شائقی کا مطالعہ فرمائیں۔

حدیث نمبر 21:

رسول اللہ ﷺ کی بغل مبارک کی مہک:

امام دارمی علیہ الرحمۃ نے بنی حریش کے ایک ثقہ آدمی سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں۔

“قَالَ كَنْتَ مَعَ أَبِي حِينَ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا عِزْ بْنَ مَالِكَ فَلَمَّا أَخْذَتْهُ الْحِجَارَةُ أَرْعَبَتْ فَضْمَنَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَسَأَلَ عَلَىٰ مِنْ عَرْقٍ إِبْطَهُ مِثْلُ

رَبِيعِ الْمَسْكِ

کہ جب حضور ﷺ نے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرار بالزنا پر سنگسار کرنے کا حکم دیا تو میں اپنے باپ کے ساتھ وہاں موجود تھا ان کے بدن پر پتھر برستے دیکھ کر مجھ میں کھڑا رہنے کی طاقت نہ رہی قریب تھا کہ میں گر پڑتا۔ تو حضور ﷺ نے مجھے اپنے ساتھ لگالیا وہ ایسا وقت تھا کہ آپ ﷺ کی بغلوں کا پسینہ مجھ پر ٹپک رہا تھا جس کی مہک مشک و غرب سے بھی عمدہ تھی۔

حوالہ جات: (الخصائص الکبریٰ ج ۱، باب الآیة فی عرقہ الشریف ﷺ، ص ۱۱۴
 (رحمانیہ) ”

☆، دارمی: ۲۴

☆ امام یوسف بن اسماعیل النبهانی، متوفی نے ۱۲۵ھ جامع المعجزات، القسم الثالث، الباب الثاني عشر، ص ۴۸۸، قدیمی کتب خانہ،

☆ زرفانی علی العواہب، ج ۴، ص ۱۸۷ بحوالہ ذکر جمیل، علامہ شفیع اوکازوی صاحب عليه الرحمۃ، ضباء القرآن پبلی کیشنر لاہور ۱۹۱۴ء، ص ۲۱۹،

☆ امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماعت ابواب صفة جسدہ الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۷، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

شرح:

حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کے ایک صحابی ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ ایسا مکروہ ترین فعل سرزد ہو گیا جو ایک صحابی کی شان رفع کے ہرگز شایاں نہ تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بظاہریہ واقعہ نہایت فتح ہے لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں درسِ بصیرت اور خطاكاروں کے لیے ایک بہترین اسوہ و نمونہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر توبۃ النصوح کی مثال نہیں مل سکتی۔

چنانچہ ایک مرتبہ جذبات نفس سے مغلوب ہو کر زنا کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس وقت توجذبات کے طوفان میں کچھ نہ سو جھا بعد میں جب ہوش آیا تو آنکھیں کھلیں اور شدت سے احساس ہوا کہ کیا کر بیٹھے، اس واقعہ کو امام مسلم نے یوں بیان فرمایا کہ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهْرَنِي فَقَالَ: وَيَحْكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبِّ إِلَيْهِ قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهْرَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَحْكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبِّ إِلَيْهِ قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهْرَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: فِيمَ أَطْهَرُكَ فَقَالَ: مِنْ الرَّزْنَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِيهِ جُنُونٌ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَكَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ فَقَالَ: نَعَمْ فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلُ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ وَقَائِلُ يَقُولُ: مَا تَوْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ
فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَا عَزِّ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهُ
لِمَا عَزِّ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سِعْتُهُمْ

حوالہ: (مسلم شریف، کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه، ج ۲، ص ۱۳۲۱)

حدیث: (۱۶۹۵)

حضرت سلمان بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت
ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ (اسی بے تابی کے عالم میں دوڑتے ہوئے)
حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک
کیجئے۔ (آپ ﷺ کیجھے گے لیکن پردہ پوشی فرماتے ہوئے فرمایا) کہ جاؤ
خدا سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو۔

(یہ جواب سن کر) واپس چلنے گے تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور پھر
عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک کیجئے۔ آپ ﷺ نے پھر وہی
جواب دیا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کرو! پھر چلنے گے تھوڑی دور
جا کر پھر لوٹ آئے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک کریں! آپ ﷺ
نے پھر وہی فرمایا پھر لوٹ گے چوتھی بار آ کر پھر عرض کیا مجھے پاک
فرمائیے۔

اب آپ ﷺ نے (صراحة) پوچھا کس چیز سے پاک کرو؟ عرض کیا
زنما (کی گندگی) سے! (حضور ﷺ جرم کے ایسے صریح اعتراف سے
بہت متعجب ہوئے کیوں کہ اس کی سزا بھی بہت دردناک تھی یعنی سنگ

ساری۔) اس لیے آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا ان کو جنون تو نہیں؟ عرض کیا گیا نہیں۔ پھر فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی؟ ایک صاحب نے اٹھ کر منہ سونگھا تو شراب کا بھی کوئی اثر نہ تھا۔ آپ ﷺ نے پھر پوچھا کیا تم نے واقعی زنا کیا ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں! اس اقرار کے بعد آپ ﷺ نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا (حکم صادر ہی ان کو لے جا کر) سنگسار کر دیا گیا۔

(اس کے بعد) ان کے بارے میں لوگوں کی رائیں مختلف تھیں بعض نے کہا کہ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہلاک ہو گے اور بعض کہتے تھے کہ ان کی توبہ سے افضل کسی کی توبہ نہیں۔ دو تین دن تک ان کے بارے یہی رائے زندگی ہوتی رہی۔ پھر حضور ﷺ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گے اور فرمایا ماعز بن مالک کے لیے سب مغفرت کی دعا کرو سب نے دعا کی دعا کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا۔

”بے شک ماعز (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس کو تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام امت کے لیے یہی ایک توبہ کافی ہے۔“

اللہ اللہ کیا ہی اعلیٰ توبہ کا جذبہ ہے کہ کسی بھی رکاوٹ نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کو نہیں روکا۔ ہم جیسے سیاہ کاروں اور بد کاروں کو اس سے ہر قسم کی شرمندگی ایک طرف رکھ کر توبہ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے صدقے ہم سب گناہ گاروں کی بھی توبہ قبول فرمائے،“ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔

نبی اکرم ﷺ کی بغلیں:

حضور ﷺ کی بغلیں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار تھیں آپ ﷺ کی بغلوں کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا اور نہیں آپ ﷺ کی بغلوں میں بال تھے۔

حوالہ: (خصائص الکبری، ذکر المعجزات و الخصائص فی خلقه، باب الآیة فی ابطیه الشریف، ج ۱، ص ۱۰۷)

کسی نے کیا خوب کہا کہ

واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا

خوب رو ملتے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا

نبی اکرم ﷺ کے مقدس ہاتھوں کا خوشبودار ہونا۔

رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک اور بازو مبارک پر گوشت تھے رشیم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار اور ٹھنڈے تھے۔

حدیث نمبر 22:

حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردی ہیں کہ۔

”خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة إلى البطحاء فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين و العصر ركعتين و بين يديه عنزة. كان تمر من ورائها المرأة و قام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجهوهم، قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي ابرد من الثلج و اطيب رائحة من المسك.“

حوالہ: (محمد بن اسماعیل بخاری، صحيح بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی ﷺ، حدیث: ۳۵۵۳)

☆، عبد المالک بن محمد ابراهیم النسابوری متوفی ۷۰۷ھ، شرف مصطفیٰ، دارالبشایر الاسلامیہ، مکہ مکرمہ، ۱۴۲۴ء، ج ۲، فصل ذکر الآیۃ فی عرقہ مَلِكُ الْجَنَّاتِ، ص ۱۱۷)

رسول اللہ مَلِكُ الْجَنَّاتِ نے دوپہر کے وقت مقام بلطحاء کی طرف سفر فرمایا۔ پس آپ مَلِكُ الْجَنَّاتِ نے وضوفرمایا پھر نماز ظہر اور عصر کی دو، دو رکعتیں ادا فرمائیں اور آپ مَلِكُ الْجَنَّاتِ کے سامنے نیزہ (بطورستہ) تھا۔ عورت نیزہ کی دوسری طرف سے گزر رہی تھی پھر لوگ کھڑے ہوئے اور نبی اکرم مَلِكُ الْجَنَّاتِ کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ لگاتے اور پھر آپ کے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضور مَلِكُ الْجَنَّاتِ کا ہاتھ مبارکہ پکڑا اور آپ مَلِكُ الْجَنَّاتِ کا ہاتھ مبارک اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو دار تھا۔

شرح:

اس حدیث میں بیان ہوا کہ لوگ حضور مَلِكُ الْجَنَّاتِ کے ہاتھ مبارک پکڑ کر اپنے چہروں پر ملتے معلوم ہوا کہ کسی بزرگ ہستی سے برکت حاصل کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول رہا ہے۔

حضور مَلِكُ الْجَنَّاتِ کے ہاتھ مبارک وہ ہاتھ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت و خیر رکھی ہے اور یہی وہ ہاتھ مبارک ہیں جو کسی صاحبِ مرض کے جسم سے مس ہوتے ہیں تو اس کو بفضلِ رب کائنات شفافی جاتی ہے۔

حوالہ: (بخاری شریف، باب الصلاۃ علی الشهید، حدیث نمبر: ۱۲۴۴، بخاری شریف، باب قتل ابی رافع عبد اللہ بن ابی حدیث نمبر: ۴۰۳۹)

ضروری بات:

حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا فرمایا تو اس کا مطلب یہ کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں ادا فرمایا۔ ایک نماز کے وقت میں دونمازوں کو بطورِ اداجمع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نماز کے لیے وقت کا ہوا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمازِ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ﷺ نے دو، دور کعات ادا فرمائیں اس لیے کہ آپ ﷺ سفر میں تھے۔

حدیث نمبر 23:

حضرت اسامة بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے اور آپ ﷺ سے اسلام کے بارے میں سوالات کیے تو آپ ﷺ نے ان کو جوابات ارشاد فرمائے (اس کے بعد فرماتے ہیں) کہ—
 “ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَقْبَلُونَ يَدَهُ
 (مَلَكُ الْجَنَّاتِ) فَاخْذُتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَطِيبُ مِنَ
 الْمَسْكِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ”

حوالہ: (ابو بکر احمد بن حسین بن علی الغراسی، البیهقی، متوفی ۴۵۸ھ، شعب الایمان، باب تعظیم النبی ﷺ، ج ۲، ص ۱۰۷، مکتبۃ الرشد للنشر والتوزیع بالریاض، طبعة الاولی ۱۴۲۳ھ، ۲۰۰۲ء)

پھر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے پس لوگ حضور ﷺ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینے لگے پھر میں بھی اٹھا اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور اپنے چہرہ پر رکھا تو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ سفید تھا۔

شرح:

اس حدیث مبارک میں بیان ہوا جب حضور ﷺ کھڑے ہوئے تو تمام لوگ کھڑے ہو گئے معلوم ہوا کہ کسی کے ادب کے لیے تعظیماً قیام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ اور معمول تھا اور یہ بھی واضح ہوا کہ حضور ﷺ یا کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ کو بوسہ دینا سنتِ صحابہ کرام ہے اور صرف بوسہ دینا، ہی نہیں بلکہ اس کو منہ پر ملنا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت مبارک رہی ہے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کے منبر پر ہاتھ پھیرتے پھراپنے چہرے پر پھیر لیتے۔

حوالہ: (شفاء شریف، القسم الثاني، باب الثالث، الفصل السابع اعزاز ماله من صلة، ج ۲، ص ۱۲۷)

نبی اکرم ﷺ کے دست اقدس:

یہ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ کی فضیلت ہے کہ ان سے خوشبوآتی رہتی تھی۔ اور یہ وہ ہاتھ مبارک ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ اگر ان ہاتھوں میں چھڑی آتی ہے تو جس بت کو لگتی ہے تو وہ اوندھے منہ زمین پر گرجاتا ہے جس سے سب لوگ تعجب کرتے ہیں۔

حوالہ: (سیرت ابن هشام، ذکر الأسباب الموجبة المسيرة إلى مكة و ذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان، باب امان الرسول صفوان بن امیہ، ج ۲، ص ۴۱۷)

اور جب یہ دست مبارک کسی لا غر اور کمزور جانور پر لگتے تھے تو وہ تندرست اور چست و چالاک ہو جاتا تھا اور سب سے تیز بھاگنے لگتا تھا۔

حوالہ: (السنن الکبری للبهیقی، کتاب الزکوة، باب کیف فرض الصدقہ، ۴، ص ۱۴۹)

اور یہی وہ ہاتھ مبارک ہیں کہ جب ان میں پھر آتے تھے تو وہ آپ ﷺ کی شہادت دیتے تھے اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیتے تھے۔

تخریج: (دلائل النبوة، ابو نعیم: الفصل الخامس عشر ذکر الحدائق، ج ۱، ص ۲۳۷، حدیث

(۱۱۸۹)

حدیث نمبر 24:

اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

”عن أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ ابُودُ الْأَلْبَابِ وَأَطَيْبُ الْمَسَكِ“

حوالہ: (احمد بن علی بن عبد الله تقی الدین المقریزی، متوفی ۴۵۵ھ، امتناع الاصناع بما للنبي من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع، فصل فی محبة النبي ﷺ، ج ۷، ص ۱۰۲، دار الكتب العلمیہ بیروت، ۱۹۹۹ھ-۱۴۲۰)

حضرت اُسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے اور اپنا دست مبارک رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبو دار تھا۔

شرح:

حضرت ﷺ کے ہاتھ مبارک کا کیا کہنا ان کی کیا کیا خوبی اور فضیلت بیان کی جائے آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک اگر کسی کے جسم سے مس ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور مہک اس آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتی تھی کہ جنت کی ٹھنڈی ہوا گیں اور جنت کی مہک اس ہستی کا توسل اور وسیلہ سے ہیں۔

اور آپ ﷺ جب اپنے ہاتھ مبارک کسی کے چہرے اور سینے سے مس کرتے ہیں تو وہ چہرہ اور سینہ اندازش ہو جاتا ہے کہ اندر ہیری کوٹھری میں بھی روشنی کرتا ہے۔

حوالہ: (كتنز العمال حديث نمبر: ۳۶۸۲۳)

اور کبھی آپ ﷺ کا ہاتھ مبارک مس ہونے کی وجہ سے کسی کا چہرہ مثل آئینہ کے چمک جاتا ہے اور اس میں اشیاء کے عکس نظر آتے ہیں۔

حوالہ: (مسند امام احمد، مسند کوفین، حديث قنادة بن منحان، ج ۲۲، ص ۴۲۸) حديث نمبر: ۲۰۳۱۷

اور جب یہ ہاتھ مبارک کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ مس ہوتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔

حوالہ: (بخاری شریف "باب قتل ابی رافع عبد اللہ بن ابی حديث نمبر: ۴۰۳۹)" اور جب یہ ہاتھ مبارک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و گرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے پر پھیرے جاتے ہیں تو آپ کو مدینۃ العلم کا دروازہ بنادیتے ہیں۔

حوالہ: (ابن ماجہ، کتاب الاحکام، باب الفضاه، ج ۲، ص ۷۷۴) حديث نمبر: ۲۳۱۰ - ۷۷۴
☆ حاکم لمستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب قصة اعتزال محمد بن مسلمہ انصاری، ج ۲، ص ۱۴۵، حديث نمبر: ۴۶۵۸:-)

حدیث نمبر 25:

عن جابر بن سمرة قال صلیت مع رسول الله ﷺ صلوة الاولى ثم خرج الى اهله و خرجت معه فاستقبله ولدانه فجعل يمسح خذى احدهم واحدا واحدا قال واما انا فمسح خذى قال فوجدت ليذيه بردًا وريحاً كأنما آخر جهائمن جهنمة عطار

حوالہ: (مسلم بن حجاج القشیری، صحيح مسلم، کتاب الفضائل، باب طیب ریحہ ملک الجنین، ج ۲، ص ۲۶۲، مکتبہ رحمانیہ،

☆ عبد الرحمن بن ابی سکر السیوطی، الامام، ۱۹۱ھ، الریاض الانبغة فی شرح اسماء خیر الخبفۃ، المعروف شرح اسماء النبی من حرف الطاء، ص ۳۳۱، شیبر برادر لاهور)

حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملک الجنین کی ساتھ ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ ملک الجنین اپنے گھر کی طرف گئے میں بھی آپ ملک الجنین کے ساتھ گیا سامنے سے کچھ بچے آئے آپ ملک الجنین نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ ملک الجنین کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوبصوری پائی کہ گویا آپ ملک الجنین نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوق پر (ڈبے) سے نکالا ہو۔

شرح:

اس حدیث میں بیان ہوا کہ حضور ملک الجنین نے بچوں کی رخساروں پر اپنا دست مبارک پھیرا جس سے پتہ چلا کہ آپ ملک الجنین بچوں کے ساتھ بہت پیار فرماتے تھے اور پیار میں ان کی رخساروں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔

رحمتِ عالم ملک الجنین کی بچوں سے محبت:

نبی اکرم ملک الجنین بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے اس بارے میں چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ احادیث ہمارے لیے مشعلِ راہ کا کام دیں۔

(1)

حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شیرخوار بچے نبی اکرم ملک الجنین

کی خدمت اقدس میں لے کر آئیں آپ ﷺ نے اس بچے کو گود میں بیٹھالیا، اس نے آپ ﷺ کے کپڑوں پر پیشتاب کر دیا آپ ﷺ نے اس پر پانی بہادیا اور کچھ نہ کہا۔

(2)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْسَةِ بْنَ عَلَيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّسِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنِّي لَيَ عَشَرَةُ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَّمُ

تخریج: (بخاری شریف، کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبیله)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آپ ﷺ
حضرت امام حسن بن علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوم رہے
تھے۔ حضرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ﷺ کے پاس
بیٹھے تھے، دیکھ کر کہنے لگے میرے دس بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے
کسی کو نہیں چوما۔ آپ ﷺ نے فرمایا، "جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا
جاتا"

(3)

“عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبَارٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعُلُهُ”

حوالہ: (بخاری شریف، کتاب الاستذان، باب التسلیم على الصیان)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچوں پر گزر رہا تو آپ نے

ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ کا گزر بچوں پر ہوتا تو آپ ﷺ بھی بچوں کو سلام کرتے تھے۔

(4)

حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی سفر سے تشریف لاتے تو آپ ﷺ کی اہل بیت کے بچے آپ ﷺ کی خدمت میں لائے جاتے، ایک دفعہ آپ ﷺ کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے میں آپ ﷺ کی خدمت میں پیش حاضر ہوا، آپ ﷺ نے مجھے اپنے آگے سوار کر لیا، پھر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو صاحزادوں میں سے کوئی ایک سامنے آئے تو آپ ﷺ نے ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا اسی طرح تینوں ایک سواری پر مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔

حوالہ: (مشکوہ شریف بحوالہ مسلم شریف، باب آداب السفر)

(5)

“عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أَغَيْلَمَةُ بْنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ”

حوالہ: (بخاری شریف، کتاب الباس، باب الثالثة على الدابة، حدیث نمبر: ۵۹۶۵)

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب آپ ﷺ کی میں تشریف لائے تو آپ ﷺ کے پاس بنی عبدالمطلب کے دو صاحزادے آئے تو آپ ﷺ نے ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو پیچھے بٹھالیا۔

(6)

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُؤْتَى بِأَوَّلِ الشَّمْرِ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي
ثِمَارِنَا وَفِي مُدُنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةً ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ
مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی پہلا پھل
پکتا تو لوگ اس کو رسول اللہ ﷺ کے خدمت میں پیش کرتے۔ آپ اس
پر یہ دعا پڑھتے: ”اے اللہ ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پھل میں اور
ہمارے مدینہ میں اور ہمارے صاف میں برکت عطا فرما“، اس دعا کے بعد جو
بچے آپ ﷺ کے پاس موجود ہوتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو
پھل عنایت فرماتے (پھر اس سے بڑے کو پھر اس سے بڑے کو یوں ہی
پھل ختم ہو جاتا)

حوالہ: (صحیح مسلم شریف، کتاب الفضائل، باب فضل العدینہ، حدیث نمبر ۱۳۷۲)

(7)

”وَيُدَاعِبُ حِبَّانَهُمْ وَيُجْلِسُهُمْ فِي حِجْرٍ“
حضور ﷺ صحابہ کرام ﷺ کے بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے اور
ان سے خوش طبعی فرماتے۔

حوالہ: (الشفاء، بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل اما حسن عشرتہ، ص ۸۲، مکتبہ روضۃ
القرآن، پشاور،

﴿مَذَارِجُ النَّبُوَةِ﴾، فیصل اول، باب دوم، در بیان اخلاقی و صفات، ج ۱، ص ۱۰۴، نوریہ رضویہ لاہور)

(8)

“عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُقْبِلُونَ الصَّبَيَانَ فَمَا نَقْبَلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ”

تخریج: (بخاری شریف، کتاب الادب، باب رحمة الولد و نفیله)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دیہاتی آپ ملائیکہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم بچوں کو چوتے ہو، ہم نہیں چوتے، آپ ملائیکہ نے فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحمت نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔“

(9)

“أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَعِبَادَةٍ أُوثَانٍ فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأُوْلَادَ وَكَانَتْ عِنْدِي بِنْتٌ لِي فَلَمَّا أَجَابَتْ وَكَانَتْ مَسْرُورَةً بِدُعَائِي إِذَا دَعَوْتُهَا فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَتَبَعْتُنِي فَمَرَرَتْ حَتَّى أَتَيْتُ بِشَرًا مِنْ أَهْلِي غَيْرَ بَعِيدٍ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَرَدَيْتُ بِهَا فِي الْبَرِّ وَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهَا أَنْ تَقُولَ: يَا أَبْنَاهُ يَا أَبْنَاهُ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَكَفَ دَمْعُ عَيْنَيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْزَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفْ فَإِنَّهُ

يَسَأَلُ عَمَّا أَهْمَمْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَعِدْ عَلَىٰ حَدِيثَكَ فَأَعَادَهُ فَبَكَى
حَتَّىٰ وَكَفَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنِيهِ عَلَىٰ لِحَيَّتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ
وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ“

حوالہ: (ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی، متوفی ۲۵۵ھ، سنن دارمی شریف: کتاب الدلائل النبوة، باب مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَبْلَ مَيْتَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَهَنَّمِ وَالضَّلَالَةِ، ج ۱، ص ۳۴، شبیر برادرز لاہور)

ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کے خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کے
ہم زمانہ جاہلیت میں تھے اور بتوں کی بو جا کرتے تھے، ہم اپنی اولاد کو قتل
کر دیتے تھے (یعنی بچیوں کو)، میری ایک بیٹی تھی جب وہ بولنے لگی، تو
جب میں اُس کو بلا تادہ میرے بلانے سے خوشن ہوتی۔ ایک دن میں نے
اُسے بلا یادہ میرے پیچھے چل پڑی یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے قریب
ایک کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اُس کا ہاتھ پکڑا اور اُس کو کنویں میں
پھینک دیا (اے اللہ کے رسول ﷺ) اُس کے آخری کلمات (جو اُس
وقت اُس کے زبان پر جاری تھے وہ) اے ابا جان اے میرے ابا جان
تھے (یعنی میں نے اُس کو کنویں میں ڈال دیا اور وہ مجھے ابو جان، بابا جان
کہہ کہہ کر رحم و کرم کی اپیل کر رہی تھی)۔

یہ واقعہ سن کرنے ﷺ روئے لگ پڑے اور آپ ﷺ کے آنسو بہنے لگے،
نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے اصحاب میں سے ایک نے اُس آدم سے
کہا کہ تم نے نبی ﷺ کو غمگین کر دیا ہے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ
رہنے دیں اس نے وہی پوچھا ہے جو اُس کے ذہن میں تھا، اور پھر فرمایا

کہ مجھے یہ واقعہ پھر سنا اور اس آدمی نے یہی واقعہ پھر سنا یا تو پھر نبی اکرم رحمت عالم ﷺ رونے لگے اور آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور آنسوؤں کی وجہ سے آپ ﷺ کی ریش (داڑھی) مبارک تر ہو گئی۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے اس آدمی سے فرمایا کہ جاہلیت میں لوگوں کے (برے) اعمال کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا اب تم (نیک) عمل کا آغاز کرو۔ (یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جاہلیت کے کیے ہوئے برے اعمال پر پکڑنہیں فرمائے گا آج کے بعد نیک کام ہی کرنا)

(10)

“وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ هُنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَوْحَمْ صَغِيرَنَا”

حوالہ: (مسند امام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر و بن عاص، ج ۱۱، ص ۵۲۹)

حدیث نمبر: (6937)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں (بچوں) پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ (یعنی ہمارے طریقے سے نہیں)

تربیت اولاد:

بچوں سے محبت اور پیار کرنا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے اور یہی بچے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں گے تو کل یہ بھی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک بنے گے اور اگر آج ہم نے ان پر ظلم کیا اور غصہ کیا تو کل اگر یہی بچے ظالم اور جاہرا اور والدین کے نافرمان بن جائیں گے تو اس میں ہمارا ہی قصور

ہوگا۔ کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تو یہ بھی ایسا ہی کرتے۔

اولاد کی اعلیٰ تربیت والدین کے فرائض میں شامل ہے حضور ﷺ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہو۔ جس طرح والدین اپنی اولاد کو بولنا اور چلنے سیکھاتے ہیں اسی طرح ان کو اچھی طرح بات کرنے، سنت کے مطابق اور شرعی لباس پہننے کی بھی تربیت دیں آپ آج جو فصل کاشت کریں گے کل وہی آپ کو تیار ملے گی آج اپنی اولاد کو بے حیائی اور برائی سے روکیں گے تو وہ برائی سے رک جائے گی۔

آج اپنی اولاد کو حضور ﷺ کی محبت کا درس دیں گے تو وہ یقیناً عاشق رسول بنے گی۔ حضور ﷺ سے محبت ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے اور اپنی اولاد کو محبت رسول ﷺ کا سبق دینے کے متعلق حضور ﷺ کا فرمان مبارک ہی کافی ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”قَالَ أَدْبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ حُبُّ نَبِيِّكُمْ وَحُبُّ
أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى قِرَائَةِ الْقُرْآنِ“

تخریج: (احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیتمی، المتوفی: ۹۷۴، الصواعق المحرقة، المقصد الثاني فی ما تضمنه، ج ۲، ص ۴۹۶)

☆ محمد بن عبد السلام خضر الشیری الحوامدی، متوفی ۵۲۱ھ، السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، فصل فی الذکر والدعا عند المطر، ج ۱، ص ۲۸۲

☆ زین الدین محمد المدعو بعد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین العدادی نم المناوی القاهری متوفی ۱۰۳۵ھ، فیض القدر شرح الجامع الصغیر، حرف الهمزة، ج ۱، ص ۲۲۵

☆ زین الدین محمد المدعو بعد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین العدادی نم المناوی القاهری متوفی ۱۰۳۵ھ، التيسیر بشرح الجامع الصغیر، حرف الهمزة، ج ۱، ص ۵۲

☆ أبو العباس شہاب الدین احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بن سلیم بن فایماز بن عثمان

ابو صيرى الكنانى الشافعى، متوفى ١٤٨٤هـ، إتحاف الخيرة المهرة بزوابيد المسانيد العشرة، باب فى
السلاعن ونحرهم دعوه ج ٨، ص ١٨٥

ج ٢، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطى، متوفى ٩١١هـ، الفتح الكبير فى ضم الزيادة
إلى حديث الصغير، حرف الهمزة، ج ١، ص ٥٧

ج ٣، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادى العراحى العجلونى المتوفى: ١٦٢هـ، كشف الخفاء

ج ٤، الإلناس، باب الهمزة مع الذال المعجمة، ج ١، ص ٧٤

☆ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطى المتوفى: ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع
(الصغير وزياذه)

اپی اولاد کو تین چیزیں سیکھاؤ اپنے نبی ﷺ کی محبت، اور نبی اکرم ﷺ کی تلاوت،
آج آپ اپنی اولاد کو نماز کی عادت ڈالیں گے تو مرتبے دم تک وہ نماز
کی پابند رہے گی آپ اپنی اولاد کا خیال ضرور کھا کریں۔

ایک کسان جب دھان (مونجی) کی فصل کاشت کرنے لیے یا با غبان
(مالی) کسی اور پودے کی پنیری لگاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی
پرندہ خراب نہ کر دے کوئی جانور نہ کھا جائے کوئی آدمی ان کے نزم زم شگوفوں کو مسل نہ
دے کوئی کیڑا اور غیرہ نہ لگ جائے تو آپ ہی بتایں کہ ایک عام سی فصل اور پودے کے
لیے اتنی محنت اور دیکھ بھال، اور جو آپ کے گلشن کے نفحے نفحے پھول اور کلیاں ہیں اور
وہ پھول اور کلیاں جو آپ کی زندگی کا سرمایہ ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟؟؟
نہیں نہیں ان کی دوستی، صحبت، چال چلن، تہائی وغیرہ پر خاص نظر رکھیں کہ کہیں آپ کا
سرماہہ بتاہی اور بربادی کی طرف تو نہیں جا رہا؟؟؟ کہیں ان کی دوستی ایسے لوگوں کے
تو نہیں جو دین و ایمان، یا عزت، کے ڈاکو ہیں؟؟؟ یا ایسے لوگوں کے ساتھ تو
نہیں جو ملک یا شہر یا آپ کے گھر کو نقصان پہچانے والے ہیں؟؟؟

الغرض جتنی اچھی تربیت اولاد کی کریں گے تو اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ آپ کو ہو گا اور اگر خدا نہ کرے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت بری کی تو کل اس کا و بال بھی آپ پر ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے آمین۔ بجاہ النبی الکریم الامین۔

حدیث نمبر 26:

ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔

”قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه مسح رسول الله
صلى الله عليه وسلم خدى فوجدت ليده بردا وريحا
كانما أخرج يده من جؤنة عطار“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماع ابواب صفة حسنه الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۶، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رخسار پر رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ ﷺ کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبوائی پائی کہ گویا آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوق پر سے نکالا ہو۔

شرح:

حضرت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں:

”فَكَانَ الْخَدَّ الَّذِي مَسَحَهُ مَلِكُ الْجَنَّاتِ أَحْسَنَ“.

حوالہ: (شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی متوفی ۷۴۸ھ، سیر العلام النبلا، ج ۳، ص ۱۸۷)

میری وہ رخسار جس پر نبی اکرم ﷺ نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا وہ زیادہ خوبصورت تھی۔

حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ عطار کے صدو قبے نکالا تو نہ ہوتا تھا لیکن آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک کی مہک کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک کو کوئی خوبصورگانی گئی ہے کیا، ہی اعلیٰ معجزہ ہے کہ ہر ہر عضو سے خوبصورگ رہی ہے، بس جان اللہ و الحمد للہ علی ذلک۔

حدیث نمبر 27:

قال يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه: ناولنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك.

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماع ابواب صفة حسدہ الشریف ﷺ ج ۲، الباب الناسع عشر، ص ۸۶، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنا ہاتھ مبارک پکڑایا تو وہ برف سے ٹھنڈا اور مٹک سے زیادہ خوبصوردار تھا۔

حدیث نمبر 28:

یہ حدیث اس روایت کے ساتھ بھی ملتی ہے
”حدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ
بْنَ الْأَسْوَدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعْنِي
فَقِلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَأْوَلْنِي يَدَكَ فَنَأْوَلْنِيهَا فَإِذَا هِيَ

ابرد من الثلج و اطيب ريحًا من المسك“

تخریج: (دلائل النبوة لبیهی، باب طب رائحة رسول الله ﷺ، ج ۱، ص ۰۲۵۷)

ہم کو بیان کیا حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلیٰ بن عطاء سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن یزید بن اسود (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے سنا اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ ﷺ اس وقت منی میں تھے پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اپنا ہاتھ عنایت فرمائیں تو نبی کریم ﷺ نے مجھے اپنا ہاتھ مبارک دیا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔

شرح:

سبحان اللہ آج ہم کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا حضور ﷺ تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارا ہاتھ بھی حضور ﷺ کے ہاتھ میں آ جائے لیکن میں ہزار ہا جائیں قربان کروں نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام پر جن کو حضور ﷺ بلا بلا کو خود اپنادست مبارک تھمار ہے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں حضور ﷺ خود اپنا مبارک ہاتھ دے کر ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے ہیں، سبحان اللہ۔

انہائی ضروری بات:

چونکہ اولیاء اللہ کے سلسلہ میں داخل ہونا ان کا مرید اور معتقد ہونا دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے اس لیے بیعت سے پہلے پیر و مرشد میں یہ چار باتیں

ضرور دیکھ لیں۔ (۱) صحیح العقیدہ سُنی ہو (۲) کم از کم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مائل خود کتابوں سے نکال لئے ہیں تو حلال حرام، جائز ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا (۳) فاسق معلم نہ ہو (یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو) کیونکہ فاسق کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے (۴) اس کا سلسلہ نبی اکرم ﷺ تک متصل (ملا ہوا) ہو ورنہ اور پر سے فیض نہ آئے گا۔

حوالہ: (قانون شریعت، حصہ اول ص ۱۰۶۳ اکبر بٹ سیلز لاہور)

اور بیعت کرتے وقت مرد اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دیں لیکن عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ پیر و مرشد کے ہاتھ میں دیں اور پیر و مرشد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کریں یا عورتوں کی طرف دیکھیں، امید ہے کہ آپ مندرجہ بالا گفتگو سے سمجھ گے ہوں گے کہ کون سا پیر اصلی ہے اور کس نے لوگوں کی آنکھوں میں نمک چھڑک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے برے کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حدیث نمبر 29:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَصَاخِحُ
النَّبِيَّ ﷺ وَيَمْسِ جَلْدِي جَلْدَهُ فَأَعْرَفُ فِي يَدِي بَعْدَ
ثَالِثَةَ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ.

حوالہ: (امام یوسف بن اسماعیل البهانی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المعرفات، القسم الثالث، الباب الرابع، فصل ثانی ص ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، قدمی کتب خانہ)

حضرت واکل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ سے مصافحہ کیا کرتا تھا اور میری جلد آپ ﷺ کی جلد مبارک کو

چھوٹی تھی پس میں تیرے دن کے بعد بھی اپنے ہاتھ میں مشک سے بھی زیادہ مہک محسوس کرتا تھا۔

حدیث نمبر 30:

روایت ہے کہ آپ ﷺ جس چیز کو چھو لیتے اس میں مشک، اور انہر کی خوبصورتی، یہاں تک کہ خشک لکڑی سے بھی خوبصوراً نہ لگتی تھی۔

حوالہ: (جامع المعجزات مترجم، الشیخ محمد عبد الواعظ الرہاوی عنہ

فرید بکستان لاہور،)

حدیث نمبر 31:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ سفر سے واپس آ کر مجھے کچھ چھوٹے عطا فرماتے تھے جس سے مہینہ بھر خوبصوراتی رہتی تھی۔

حوالہ: (جامع المعجزات مترجم، الشیخ محمد عبد الواعظ الرہاوی علیہ الرحمۃ، ص ۲۶۹،

فرید بکستان لاہور،)

حدیث نمبر 32:

روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک سانپ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے منہ میں جوز ہر ہے اسے پھینک دو، سانپ نے سر جھکا دیا تو مشقال برابر کوئی چیز باہر نکال دی جسے حضور ﷺ نے پکڑ کر ریت میں پھینک دیا تو ریت سے خوبصورتی آنے لگی (یقیناً یہ خوبصورتی کے چھونے سے پیدا ہوئی تھی، ابوالاحمد غفرلہ)

حوالہ: (جامع المعجزات مترجم، الشیخ محمد عبد الواعظ الرہاوی علیہ الرحمۃ، ص ۲۷۱،

فرید بکستان لاہور،)

شرح:

ان احادیث میں حضور ﷺ کے دستِ اقدس کے معجزات بیان کیے گے جو

آپ نے پڑھے ہیں میں نے ماقبل ان کے علاوہ حضور ﷺ کے ہاتھ مبارک کے چند بحجزات بیان کیے اس جگہ مزید چند بحجزات بیان کرتا ہوں جو آپ ﷺ کے ہاتھ مبارکہ سے صادر ہوئے، و باللہ التوفیق“

بحجزاتِ دستِ نبوی ﷺ:

(1)

”أَنَّ أَبِيضَ بْنَ حَمَّالٍ كَانَ بِوْجَهِهِ حَرَازَةً وَهِيَ الْقَوْبَاءُ
فَالْتَّقَمَتْ أَنْفُهُ فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِهِ
فَلَمْ يَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَفِيهِ أَثْرٌ.

حضرت ابیض بن حمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر داد تھا۔ جس سے چہرے کارگ بدل گیا تھا ایک دن حضور ﷺ نے ان کو طلب فرمایا اور ان کے چہرے پر اپنا دستِ شفا پھیرا شام سے پہلے پہلے داد اور اس کا نشان بھی جاتا رہا۔

حوالہ: (امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۲۵۶ھ، الاصابہ فی معرفۃ الصحابة، مذکرة ابیض بن حمال، ج ۱، ص ۱۷۷)

(2)

”قَالَ: أَتَيْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
وَبِكَفْيِ سَلْعَةٍ فَقَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ السَّلْعَةَ قَدْ آذَنَنِي
تَحْوِلُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَائِمِ السَّيفِ فَقَالَ: أَدْنِ فَدَنَوْتُ فَوْضَعَ يَدِهِ
عَلَى السَّلْعَةِ فَمَا زَالَ يَطْعَنُهَا بِكَفِهِ حَتَّى رَفَعَهُ . وَمَا أَدْرِي أَيْنَ
أَثْرَهَا.

حضرت شرحبیل بن عبد الرحمن الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبھیں ﷺ کی خدمت میں آیا میری ہتھیلی میں ایک گلٹی تھی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے ہاتھ میں یہ گلٹی ہے جس کی وجہ سے میں تکوار کا بفسد اور گھوڑے کی باغ نہیں پکڑ سکتا حضور ﷺ نے فرمایا قریب آؤ تو میں قریب ہوا تو آپ ﷺ اپنی ہتھیلی سے اس گلٹی کو گڑا، تو اس کا نشان تک نہ رہا۔

حوالہ: (امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، الا صابہ فی معرفۃ الصحابة، ذکرہ شرحیل بن عبد الرحمن الجعفی، ج ۳، ص ۲۶۸)

(3)

”وعن ابن عباس قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني به جنون وإنه ليأخذه عند غدائنا وعشائernا لمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فشع ثعنة وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود يسعى“

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کہ اس کو جنون ہے۔ اور صبح اور شام کے وقت اس کو دورا پڑتا ہے حضور ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا، لڑ کرنے کے قی اور اس میں سے ایک کالے کتے کا پلاٹکلا اور وہ بچہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔

حوالہ: (احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک القسطلانی، متوفی ۹۲۲ھ، مواہب

الدنیہ، باب حدیث الفصہ، ج ۲، ص ۲۹۸

(4)

”عن قتادة بن النعمان أنه أصيّبت عينه يوم بدر فسالت
حدقته على وجهه فأرادوا أن يقطعوها فقالوا: لا حتى
نستأمر رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم فاستأمرـوه
فقال: لا ثم دعا به فوضع راحته على حدقته ثم غمزـها
فكان لا يدرى أى عينيه ذهب.“

حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ مبارکہ
کو بدر کے دن صدمہ پہنچا اور آنکھ مبارک کا ڈیلار خسار پر آگیا لوگوں نے
کہا کہ اس کو کٹ دیا جائے۔ پھر کہا جتنی دریک حضور ﷺ سے پوچھانہ
لیں یہ کام نہیں کریں گے جب حضور ﷺ سے اس بارے میں پوچھا گیا
تو آپ ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کرو پھر ان کو بلا یا اور ڈیلے کو اپنے دست
مبارک سے اس کی جگہ پر کھدیا، آنکھ ایسی درست ہو گئی کہ کوئی بھی نہ بتا
سکتا تھا کہ دونوں آنکھوں میں سے کون سی کو صدمہ پہنچا تھا۔

حوالہ: (امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، الاصابہ فی معرفة الصحابة،
ذکرہ قنادة بن نعمان، ج ۵، ص ۳۱۸)

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قادہ فرماتے تھے کہ مجھے دوسرا آنکھ کی
نسبت اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا جس کو حضور ﷺ نے ثیک کیا تھا۔

(5)

”فقال: يا رسول الله امسح وجهي وادع لى بالبركة قال:

ففعل فكان وجهه يزهو.“

حضرت عائذ بن سعيد جسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ میرے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیں اور میرے لیے برکت کی دعا فرمادیں حضور ﷺ نے اسی طرح کیا تو اس وقت سے حضرت عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرا ہمیشہ تروتازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔

حوالہ: (امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ٨٥٢ھ، الاصابہ فی معرفة الصحابة، تذکرة عائذ بن سعيد، ج ۲، ص ۴۹۳)

(6)

”مسح النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجْهَ قَنَادَةَ بْنِ مَلْحَانٍ ثُمَّ كَبَرَ فَبَلَى مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ وَجْهِهِ“
رسول اللہ ﷺ نے حضرت قنادۃ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا جب وہ عمر سیدہ ہو گے تو ان کے تمام جسم پر بڑھاپے کے آثار نہیاں تھا لیکن چہرہ بالکل تروتازہ تھا۔

حوالہ: (امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ٨٥٢ھ، الاصابہ فی معرفة الصحابة، تذکرة قنادۃ بن ملحان، ج ۵، ص ۱۷۰)

(7)

”قَالَ قَيْسٌ: فَاجْلَسْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدِيهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي وَدَعَالِي وَقَالَ: بَارِكَ اللَّهُ فِيْكَ يَا قَيْسًا. ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ أَبُو الطَّفْفَلِ“

فهلک قیس وہو ابن مائے سنہ و رأسہ أبيض و اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ أسود۔“

حضرت قیس بن زید بن حباب جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے میں برکت ڈالے تم ابوظفیل ہو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو برس کی عمر میں وفات پائی ان کے سر کے بال مبارک سفید ہو گئے تھے مگر جس جگہ حضور ﷺ نے ہاتھ مبارک رکھا تھا اس جگہ کے بال سیاہ ہی تھے۔

حوالہ: (امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، الاستایہ فی معرفة الصحابة، تذکرة قیس بن زید الجذامی، ج ۵، ص ۳۵۷)

(8)

”وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَعُ فَسَحْبٍ عَلَى رَأْسِهِ فَنَبَتْ شِعْرٌ“

حضرت ہلب طالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اقرع (گنجے) تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اس وقت بال اگ آئے (اسی وجہ سے ان کو ہلب (زیادہ بالوں والا) کہا جاتا تھا۔)

حوالہ: (یوسف بن عبد اللہ النمری القرطبی، متوفی ۴۶۳ھ، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، تذکرة ہلب طالی، ج ۴، ص ۱۵۴۹)

(9)

”رَوْتَ عَنْهُ ابْنَتَهُ عُمْرَةً أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَكَسَانِي بِرَدِينِ وَأَعْطَانِي سِيفَا
قَالَتْ: فَمَا شَابَ رَأْسَ أُبَيِّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؟^١

حضرت یسار بن ازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی عمرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا
اور مجھے دو چادریں پہنادیں اور ایک توار بھی عطا فرمائی۔ حضرت یسار کی
صاحبزادی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میرے باپ
کے سر میں سفید بال نہ آئے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی۔

حوالہ: (امام ابن القیم، متوفی ۶۲۷ھ، أسد الغابہ، تذکرہ یسار بن ازیہ الرجهنی، ج ۵،

ص ۴۷۷)

(10)

”قال أبو عمر: كان سهيل قد خرج بابنته عميرة وبصاعين
من تمر فقال: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. قال: وما
هي قال: تدعوا الله لي ولا بنتي. وتمسح رأسها فإنه ليس
لي ولد غيرها قالت: عميرة: فوضع كفه على فاقسم بالله
لكان برد كفت رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم على
كبدـي بعد.“

ابو عمر فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صاع
کھجوریں بطور زکوٰۃ اور اپنی بیٹی عمیرہ کو لے کر رسول ﷺ کی خدمت با
برکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے آپ ﷺ سے
کام ہے فرمایا کیا کام ہے؟ عرض کیا کہ آپ ﷺ میرے حق اور میری

بیٹی کے حق میں دعا فرمائیں، اور اس بیٹی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیں میری اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اس کے بعد بھی میرے کلیجے (سینے) میں رہی۔

حوالہ: (امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، الاصابہ فی معرفۃ الصحابة، نذکرة عمرہ بنت سهل بن رافع، ج ۸، ص ۲۵۰)

(11)

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي غَنِيمَةٍ لَالِّا لِأَبِي مُعِيطٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، عِنْدَكَ لَبَنٌ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمِنٌ قَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ شَاةٌ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُ بِشَاةٍ شَطُورٍ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الْضَّرَعِ، وَمَا لَهَا ضَرَعٌ، فَإِذَا ضَرَعٌ حَافِلٌ مَمْلُوءٌ لَبَنًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِضَخْرَةٍ مَنْقُورَةٍ، فَحَلَبَ، ثُمَّ سَقَى أَبَا بَكْرٍ وَسَقَانِي، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرَعِ اقْلُصْ فَرَجَعَ كَمَا كَانَ، فَأَنَا رَأَيْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِمْتَنِي فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، فَإِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ فَأَسْلَمْتُ“

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چڑایا کرتا تھا ایک روز رسول ﷺ کی تشریف لائے آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ ﷺ نے فرمایا اے لڑکے کیا تیرے پاس دو دھے ہے؟؟

میں نے کہا کہ ہاں لیکن میں امین ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر زندہ کو دا ہو؟؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں پس میں نے ایک بکری پیش کی جس کے تھن نہ تھے آپ ﷺ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ مبارک مارا اچانک دو دھے سے بھرا ہوا ایک تھن ظاہر ہوا آپ ﷺ نے دو دھد دو دھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھ کو پلا یا۔ پھر تھن کو ارشاد فرمایا کہ سکر جاتو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے تعلیم دیں آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا برکت دے کر فرمایا کہ تو تعلیم یافتہ لڑکا ہے پس میں اسلام لے آیا۔

حوالہ: (امام ابو القاسم سلمان بن ابوبکر، الطبرانی، المعجم الصغری الطبرانی، باب من اسمه عمر، ج ۱، ص ۳۱۰، حدیث ۵۱۳)

حدیث نمبر 33:

كمال حسن حضور ﷺ:

”عَنْ عَلَىٰ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيضُ
اللَّوْنِ مُشَرِّبًا حَمْرَةً أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ذَقِيقَ الْمَسْرَبَةِ ذَقِيقَ
الْعَرَيْنِ مَسْهِلَ الْخَدَيْنِ كَثُرَ الدَّحْيَةَ ذَا وَهْرَةَ كَانَ عَنْقَهُ إِبْرَيقِ

فَضْلَةُ لَهُ شَعْرٌ يَجْرِي مِنْ لَبْتِهِ إِلَى سُرْتِهِ كَالْقَضِيبِ لَيْسَ فِي
بَطْنِهِ وَلَا صَدْرِهِ شَعْرٌ غَيْرُهُ كَأَنَّ عَرْقَهُ فِي وَجْهِهِ الْتَّؤْلُؤُ
وَلَرِيحَ عَرْقَهُ أَطِيبُ مِنَ الْمَسْكِ الْأَذْفَرِ”

حوالہ: (الخصائص الكبرى ج ۱، باب ذکر المعجزات والخصائص فی خلقه ﷺ، ص ۱۲۸،
(رحمانیہ)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا رنگ سرخی
ماں سفید، پتلیاں سیاہ، سینہ سے ناف تک بالوں کا یک خط، تاک بلند،
رخار دراز اور بلند، داڑھی گھنی، اور بال کا لوٹک تھے۔ گرد
مبارک گویا چاندی کی صراحی تھی۔ پیشانی پر پیسہ موتیوں مانند چمکتا اور
پیسہ کی خوبصورتی سے زیادہ پا کیزہ اور لطیف تھی۔

شرح:

اس حدیث مبارک میں حضور ﷺ کے تقریباً اکثر اعضاء کا ذکر ہوا ہم اس جگہ
نبی اکرم ﷺ کے جسم مبارکہ اور اعضاء مبارکہ کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں۔

سر اقدس:

(۱) ”عَنْ الْحَسْنِ بْنِ عَلَىٰ عَنْ خَالِهِ هَنْدِ بْنِ أَبِي هَالَّةِ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَظِيمُ الْهَامَةِ“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي، متوفى ۵۹۸ھ، الوفا باحوال
المقطفين ﷺ، ابواب صفات جلد، الباب الاقل فی صفة رأسه، ص ۳۹۱، دار الكتب
العلمیہ 2012)

لذامناع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والمحفوظة والمتاع، أحمد بن على بن عبد القادر
أبو العباس الحسيني العبيدي نقى الدين المفرizi المتوفى ۴۶۵ھ، باب اما ووجهه الكريم، ج ۲،

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا سر ناز عظیم تھا۔

(2) ”عن نافع بن جبیر قال: وصف لنا على بن ابى طالب

النَّبِيُّ عَلَىٰ فَتْحِهِ فَقَالَ كَانَ عَظِيمًا الْهَامِةً“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفیٰ ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الاول فی صفة رأسه، ص ۳۹۱، دار الكتب العلمية 2012)

حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کے جسم مبارک کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ کا سر ناز عظیم تھا۔ یعنی مقدار اور جنم میں جیسے کہ کیف میں اور معنوی عظمت میں۔

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

سر کا عظیم ہونا قوتِ دماغ اور نورِ عقل اور جودتِ فکر کی علامت ہوتا ہے اور یہاں صرف یہ ہے کہ سر اقدس چھوٹا نہیں تھا نہ یہ کہ مقدار میں اعتدال نہ تھا، ”العیاذ بالله“ بلکہ تمام اعضاء مبارکہ میں کمال درجہ کا اعتدال اور انہا کا موازنہ تھا (اور حضور ﷺ کے تمام اعضاء میں یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ تمام اعضاء اعتدال میں تھے)

حوالہ: (شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مدارج النبوة، ج ۱، سر مبارک کا بیان)

جمین مقدس:

”عَنْ الْحَسْنِ بْنِ عَلَىٰ عَنْ خَالِهِ هَنْدِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَاسِعُ الْجَبَّينِ“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ٥٩٨ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الثانی فی صفة جیبیه، ص ۲۹۱، دار الكتب العلمیہ 2012)

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی جیبیں مبارکہ کشادہ تھیں۔

ابرو مبارک اور بھویں:

”عن الحسن بن علی بن ابی طالب عن خاله هند بن ابی هالة قال: كان رسول الله ﷺ از ج الحواجب سوابع في غير قرن بينها عرق يدره الغضب“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ٥٩٨ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الثالث فی صفة حاجیہ، ص ۳۹۲، دار الكتب العلمیہ 2012)

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے ابر و مبارک مقدار میں طویل تھے اور ان پر بال مناسب مقدار میں تھے نہ بہت زیادہ تھے اور نہ بالکل کم تھے اور باہم ملے ہوئے نہیں تھے اتنے قریب تھے کہ دور سے باہم ملے ہوئے معلوم ہوتے تھے دونوں ابر و مبارک کے درمیان ایک رگ مبارک تھی جو حالت رعب اور جلال میں حرکت میں آجائی تھی اور خون میں جوش پیدا ہونے سے اس میں لرزہ سا معلوم ہوتا تھا۔

نبی اکرم ﷺ کی پشمانت مبارک:

نبی اکرم ﷺ کی مبارک آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جواب بھی ساری کائنات کا مشاہدہ فرمائیں ہیں۔ اور ان کے مزید فضائل پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی آنکھوں کا ذکر یوں فرماتا ہے۔

”مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى“ (الثُّجُود: ۵۲)

آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔

(۲) ”عن الحسن بن علي عن حاله هند بن ابي هالة

قال: كان رسول الله ﷺ ادجع العينين از ج الحواجب

سوابغ من غير قرن اهدب الاشفار“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الرابع فی صفة عینه و اهدايه، ص ۳۹۲، دار الكتب العلمیہ 2012)

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی مقدس آنکھوں کی پتلی بہت سیاہ بھویں مبارک طویل اور باریک اور بالوں والی اور مکمل طور پر ملی ہوئی نہ تھیں اور پلکیں مبارک دراز تھیں۔

(۳) ”عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم اشكـل العـينـين“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الرابع فی صفة عینه و اهدايه، ص ۳۹۲، دار الكتب العلمیہ 2012)، مسلم شریف، کتاب الفضائل، باب نمبر ۲۷

حضرت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ کی آنکھیں سفید سرخی مائل تھیں، یعنی سفید میں سرخ باریک دھاریاں تھیں۔

(4) ”عن جابر بن سمرة قال: كنْت اذا نظرت الى رسول

الله ﷺ قلت اكحل و ليس باكحل“

حوالہ: (جامع ترمذی، کتاب المناقب، باب فی صفة النبی ﷺ، حدیث نمبر ۳۶۴۵)

☆ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الرابع فی صفة عینه و اهداه، ص ۳۹۲، دار الكتب العلمیہ (2012).

حضرت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ میں جب بھی رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھتا تو دل میں کہتا کہ آپ ﷺ نے آنکھوں میں سرمه لگایا ہوا ہے، (حالانکہ وہ قادر تر سرمه کی دھاریاں تھیں) نہ کہ سرمه لگانے کی وجہ سے تھیں۔

(5) ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا وَاللَّهُ مَا يَخْفِي عَلَى رُّؤُسِكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَأَرَأُكُمْ وَرَاءَ ظَهَرِي“

حوالہ: (بخاری شریف، کتاب الاذان، باب الخشوع فی الصلاة، ج ۱، ص ۱۰۴۹)

حضرت ابو ہریرہ رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ تم میرا منہ قبلہ کی طرف دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع (دل کی ایک خالت جو دیکھنے سے بھی نظر نہیں آتی) پوشیدہ ہے اور بے شک میں تم کو اپنے پچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا خوب فرماتے ہیں۔

اے فروغت صبح آثار و دہور

چشم تو بیندہ ما فی الصدور

(6) ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَا نَظَرُ إِلَى مَا وَرَأَيْتُ كَمَا أَنْظَرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيِّي“

حوالہ: (دلائل النبوة، ابو نعیم، فصل الثالث والعشرون ذکر تحرك الجبل حراء، رویہ ﷺ من ظہرہ، ج ۱، ص ۴۴۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ بے شک میں اپنے پچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ میں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔

(7) ”وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل في الظلمة كما يرى في النهار في الضوء“

حوالہ: (زرقانی علی الموارب، المقصد الثالث فی ما فضلہ اللہ بہ، الفصل فی کمال خلقہ و جمال صورہ ﷺ، ج ۵، ص ۲۶۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ رات کے اندر ہرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں۔

(8) ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ زرقانی فرماتے ہیں۔

”فالمعنی: إن رؤيه في النهار الصافي والليل المظلم متساوية؛ لأن الله تعالى لما رزقه الإطلاع بالباطن“

والإحاطة بـ إدراك مدركات القلوب جعل له مثل ذلك
في مدركات العيون ومن ثم كان يرى المحسوس من وراء
ظهره كما يراه من أمامه“

حواله: (زرقاني على المواهب، المقصد الثالث في ما فضل الله به، الفصل في كمال خلقه و
جمال صورته ﷺ، ج ٥، ص ٢٦٣)

پس معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کا روش دن اور اندر ہیری رات میں دیکھنا
برابر ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو باطن کی اطلاع اور
دل کی باتوں کا پورا پورا ادراک عطا فرمادیا تو ایسا ہی آپ ﷺ کی
آنکھوں کو بھی (ظاہری باطنی) ادراک عطا فرمادیا چنانچہ آپ ﷺ اپنی
پیشہ کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے جس طرح آگے دیکھتے تھے۔

(9) ”عَنْ ثُوَبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ اللَّهَ زَوَّى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا“

حواله: (مسلم شریف، کتاب الفتن و اشرافات الساعۃ، باب هلاک هذه الامة بعضهم بعض،
ج ٤، ص مسلسل ٢٢١٥)

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے یہاں تک کہ
میں نے (ساری) دنیا اور اس کے مشارق و مغارب کو دیکھالیا۔

(10) ”عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظَرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ
كَائِنُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظَرَ إِلَى كَفِيْهَ“

حواله: (زرقاني على المواهب، تابع المقصد الثامن في طبه، الفصل الثالث في انبات ﷺ)

بلانبار، المختارات، ج ١٠، ص ١٢٢)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کے حجابت اٹھادیے ہیں تو میں دنیا اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والے ہے سب کو اپے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔

(11) "وَإِنْ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا"

حوالہ: (بخاری شریف، کتاب المفارزی، باب غزوہ احمد، ج ٤، ص ٩٥، حدیث

نمبر: ٤٤٤٢)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (میری اور) تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس (حوض کوثر) کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔

سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

روشن رخسار:

(1) "عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ عَنْ خَالِهِ هَنْدِ بْنِ أَبِي هَالَّةِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكُ الْجَنَّاتِ سَهْلُ الْخَدَّيْنَ"

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ٥٩٨ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسدہ، الباب الخامس فی صفة خدیہ، ص ٣٩٣، دار الكتب العلمیہ ٢٠١٢)،

☆اتحاف سعادۃ المتقيین فی شرح احیاء العلوم الدینی، ٧/١٥٥)

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ماں حضرت ہند

بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے رخسار مبارک ڈھلوان تھے اور زیادہ ابھرے ہوئے نہیں تھے (اور نہ جزوں سے چپکے ہوئے تھے بلکہ پر گوشت تھے اور چہرہ مبارک کو چودھویں کے چاند کی مانند گول بنایا گیا تھا۔)

بنی پُر نور:

(1)

”عن هند بن ابی هالة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَقْنَى الْعَرْقَيْنِ لَهُ

نُورٌ يَعْلُوُهُ يَحْسِبُهُ مِنْ لَمْ يَتَأْمِلْهُ اسْمٌ“

تخریج: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفیٰ ﷺ، ابواب صفات جسمه، الباب السادس فی صفة انفیه، ص ۲۹۴، دار الكتب العلمیہ 2012).

حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بنی مبارک (ناک مبارک) درمیان سے ذرا خمیدہ تھی اور بلند تھی اس پر نور نمایاں نظر آتا تھا جو شخص غور سے نہ دیکھتا تو اس کو گمان گزرتا کہ ناک مبارک زیادہ بلند ہے حالانکہ بلند فی الواقع نہیں تھی بلکہ کمال کی موزونیت تھی اور اعلیٰ درجہ کا تناسب تھا شخص جلوہ نور کی وجہ سے بادی النظر کو بلندی محسوس ہوتی تھی۔

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت الشاہ احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا:

بنی پُر نور پر رخشاں ہے مجھے نور کا
ہے لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا

دہن مبارک:

نبی اکرم ﷺ کے دہن اور لعاب دہن کے فضائل ہم ماقبل میں ذکر چکے ہیں۔

کمال حسن حضور ﷺ:

”سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ لَا بَلْ مِثْلُ الْقَمَرِ“

حوالہ: (محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ۔ امام۔ صحیح بخاری (لاہور، مکہ رحمانیہ) کتاب المنقب، باب صفة النبی ﷺ، ج ۱ ص ۶۲۸)

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم ﷺ کا چہرا تمواری طرح (چمکتا) تھا؟ فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح (چمکتا) تھا۔

شمع دل مشکوٰۃ تن سینہ ز جا جہ نور کا

تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا

حضرت ابو سحاق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ کو فرماتے سن۔

”كَانَ رَسُولُ مَلِكِ الْجَنَّاتِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا“

حوالہ: (محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ۔ امام۔ صحیح بخاری (لاہور، مکہ رحمانیہ) کتاب المنقب، باب صفة النبی ﷺ، ج ۱ ص ۶۲۸)

حضور ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔

میٹھی باتیں تری دین مجھم ایمان عرب

نمکیں حسن ترا جان مجھم شان عرب

اور مسلم شریف میں ہے کہ
حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے
ہوئے سن۔

”مَا رَأَيْتُ قَطُّ أَخْسَنَ مِنْهُ مَلَكَ الْجَنَّاتِ“

حوالہ: (مسلم بن حجاج الفتنبری ۲۶۱ھ۔ امام۔ صحیح مسلم (لاہور، مکہ رحمانیہ) کتاب
الفضائل، باب صفة شعره الصفاتہ والحلیۃ ج ۲ ص ۲۶۴)

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور ﷺ سے زیادہ حسین نہ دیکھا۔

اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا کہ۔

وَ أَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ غَيْرِي

وَ أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبَرِّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ .

كَائِنَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

حوالہ: (دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ رحمانیہ لاہور، ص 56)

یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہ
دیکھا (اور نہ آئندہ دیکھے گی) اور آپ ﷺ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں
نے نہ جنا (اور نہ ہی جنے گی) آپ ﷺ کو ہر (چھوٹے، بڑے) عیب
سے پاک پیدا کیا گیا ہے، گویا آپ ﷺ کی تخلیق آپ ﷺ کی مرضی
اور چاہت کے عین مطابق کی گئی ہے۔

اور میرے امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں ترجمانی کی کہ

لَمْ يَأْتِ نَظِيرُكَ فِي نَظَرٍ مُثِيلٍ تُونَهُ شَدَّدَ بِإِجَانَا
جُگ راج کوتاچ تو رے سرسو ہے تجھ کوشہ دوسرا جانا
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا۔

صَبِيْحٌ مَلِيْعٌ أَذْعَجَ الْعَيْنِ أَشْكَلُ

فَصِيْحٌ لَهُ الْأَعْجَامُ لَيْسَ بِشَائِبٍ

آپ ﷺ کا رخ انور روشن ہے حسن دل بھانے والا ہے چشم مازاغ کی سیاہی
بہت شدید ہے اور اس کے سفید حصہ میں سرخ ڈوروں کی آمیزش نے آنکھوں کو از حد
پر کشش بنادیا ہے آپ ﷺ کے کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں
عجمیت کا شائزہ تک نہیں پایا جاتا۔

حوالہ: (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ، قصیدہ اطيب النعم، ضیاء القرآن پبلی
کیشنر، لاہور، ۱۹۰۲ء، ص ۵۲)

ریش مبارکہ:

”عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول الله ﷺ

كان يأخذ من لحيته من طولها عرضها بالسوية“

حوالہ: (امام ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۳۵۰/۱۰،

☆، امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۴۹۸ھ، الوفا باحوال
المصطفی ﷺ، ابواب صفات جده، الباب العاشر فی ذکر اللحۃ الکریمة، ص ۲۹۷، دار الكتب
العلمیہ 2012)

حضرت عمر بن شعیب علیہ الرحمۃ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ
رسول اللہ ﷺ اپنی داڑھی مبارک کو لمبائی اور چورائی میں کاشتے اور طول
عرض میں میں برابر رکھتے تھے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی مبارک طبعاً چار انگشت کی مقدار پر رک گئی تھی اور اس سے زیادہ نہ ہوتی تھی لیکن امام ابن جوزی نے جو روایت نقل کی ہے یہ ترمذی شریف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اس کو کامنے تھے اور صحیح روایت بھی یہی ہے کہ آپ ﷺ داڑھی مبارک کے لباسی چورائی میں کاٹ کر طول و عرض برابر کرتے تھے۔ مشہور مذهب احناف یہ ہے کہ چار انگشت کی مقدار واجب ہے اور علماء و مشائخ کو اس سے طویل رکھنا مستحب ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبضہ یعنی مشت بھر سے زیادہ کاٹ دیتے تھے۔

حوالہ: (خاشیہ علی الوفاء باحوال المصطفیٰ، علامہ مفتی محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمۃ، الوفاء، مترجم، ص ۴۴۸، فرید بکستان لاہور)

گردان مبارکہ:

(1) ”عن ام معبد انها وصفت رسول الله ﷺ فقالت: في
عنقه سطع“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفاء باحوال المصطفیٰ ﷺ، ابواب صفات جدہ، الباب الثانی عشر فی ذکر صفة عنقه، ص ۴۰۰، دار الكتب العلمیہ 2012).

حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم ﷺ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ کی گردان مبارک بلند تھی یعنی اس میں قدرے درازی تھی جو کہ موجب سرفرازی تھی۔

(2) ”عن عثمان بن عبد المالک قال: حدثني خالي،
وكان من أصحاب علي يوم صفين، عن علي قال: كان
رسول الله ﷺ كان عنقه ابريق فضة“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الثانی عشر فی ذکر صفة عنقه، ص ۴۰۰، دار الكتب العلمیہ 2012).

عثمان بن عبد المالک روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے حضرت علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت بیان کی اور وہ جنگ صفين میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کہ رسول اللہ ﷺ کی گردن مبارک صفائی اور سفیدی کے لحاظ سے چاندی کے کوزہ کی مانند تھی۔

رنگت مبارکہ:

ہم یہاں پر حضور ﷺ کی رنگت کے متعلق چند احادیث نقل کرتے ہیں۔

(1) ”عن انس بن مالک قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْهَرَ
اللُّونَ لِيُسْ بِالْأَدِيمِ وَلَا بِالْأَبِيضِ الْأَمْهَقِ“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب الثامن والعشرون فی صفة لونه ﷺ، ص ۴۰۹، دار الكتب العلمیہ 2012).

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی رنگت مبارکہ میں بہرہی آب و تاب اور چمک دک تھی آپ ﷺ کی رنگت نہ بالکل گندم گون تھی اور نہ بالکل سفید تھی۔

(2) ”عن ابی هریرة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبِيضَ كَانَ مَا
صَيَغَ مِنْ فَضَّةٍ“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال

المصطفى ﷺ، أبواب صفات جسده، الباب الثامن والعشرون في صفة لونه ﷺ، ص ٤٠٩، دار الكتب العلمية ٢٠١٢.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا رنگ مبارک سفید تھا اور یوں لگتا تھا کہ آپ ﷺ چاندی سے بنائے گئے ہیں۔

(3) ”عن علی قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكُ الْجَنَّاتِ أَبْيَضُ مَشْرَبًا“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ٥٩٨ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، أبواب صفات جسده، الباب الثامن والعشرون في صفة لونه ﷺ، ص ٤٠٩، دار الكتب العلمية ٢٠١٢).

☆ ابن سعد، الطبقات ١/٢٦٠ -

☆ ابن کثیر، البداية النهاية، ٦/٢١٠ -

حضرت علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم سے مردی کہ آپ ﷺ کا رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی جھلکتی تھی (جیسے چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو) یعنی بظاہر سرخی مائل تھا مگر غور سے دیکھنے والے کو اندر سے انوار پھوٹتے نظر آتے تھے۔

(4) ”عن انس قال: كَانَ لَوْنُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكُ الْجَنَّاتِ أَسْمَرُ“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ٥٩٨ھ، الوفا باحوال المصطفی ﷺ، أبواب صفات جسده، الباب الثامن والعشرون في صفة لونه ﷺ، ص ٤١٠، دار الكتب العلمية ٢٠١٢).

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رنگت کے اعتبار سے (بھی) سب لوگوں میں سے زیادہ حسین (جاذب نظر اور دلکش) تھے۔

نبی اکرم ﷺ کا سینہ اور بطنِ اقدس:

حضور ﷺ کا سینہ اور بطن دونوں ہموار و برابر تھے سینہ اقدس کسی قدر بھرا ہوا اور چوڑا تھا سینہ اقدس کے درمیان بالوں ایک باریک خط تھا جو ناف تک تھا اور سینہ اقدس کے اوپر دونوں طرف بال نہ تھے۔

اور آپ ﷺ کے اس سینے مبارک میں وہ قلب اظہر ہے جس میں اسرارِ الہیہ اور معارفِ ربانیہ رکھے گے کیون آپ بوجود صورتِ نوری سب سے پہلے پیدا کیے گئے صدرِ معنوی کی شرح اور قلب اقدس کی وسعت کا بیان طاقتِ بشری سے خارج ہے۔

چار بار فرشتوں نے آپ ﷺ کے صدرِ مبارک کو شق کیا اور قلب شریف کو نکال کر دھویا۔ اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، "اللَّمَّا نَشَرَحَ لَكَ صَدْرُكَ" (الانشیح: ۱) (کیا ہم نے آپ ﷺ کا سینہ نہیں کھول دیا) یہی وجہ ہے کہ جو اسرارِ آپ ﷺ کے قلب شریف کو عطا ہوئے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئے اور نہ کسی اور کا قلب اس کا مستحمل ہو سکتا تھا۔ حضور ﷺ اپنے قلبِ مبارک کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔

حوالہ: (خصالص کبریٰ بحوالہ ابن سعد و طبرانی، جو اول، ص ۷۲)

رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود

شرح صدر صدرات پہ لاکھوں سلام

دل سمجھ سے وراء ہے مگر یوں کہوں

غنجپے راز وحدت پہ لاکھوں سلام

اور حضور ﷺ کے بطن مبارک کے متعلق امام ابن جوزی یوں بیان کرتے ہیں۔

(۱) ”عن ام معبد انها وصفت رسول الله ﷺ فقالت: لم

تعبه ثجحة“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفیٰ ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب السادس عشر فی صفة بطنه ﷺ، ص ۱۰۰، دار الكتب العلمیہ 2012)

حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پیٹ کی بڑائی اور آگے کی طرف بڑھنے نے عیب دار نہیں کیا

(۲) ”عن ام هانی قالت: ما رأيت بطن رسول الله ﷺ الا ذكرت القراطيس المثني بعضها على بعض“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفیٰ ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب السادس عشر فی صفة بطنه ﷺ، ص ۱۰۲، دار الكتب العلمیہ 2012)

حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میری نظر جب بھی نبی اکرم ﷺ کے پیٹ پر پڑی تو مجھے تہ بہتہ رکھے ہوئے اور اقیاد آئے۔

(۳) ”عن مخرش الكعبي قال: اعتمر رسول الله ﷺ من الجوانة ليلاً فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة“

حوالہ: (امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، متوفی ۵۹۸ھ، الوفا باحوال المصطفیٰ ﷺ، ابواب صفات جسده، الباب السادس عشر فی صفة بطنه ﷺ، ص ۱۰۲، دار الكتب العلمیہ 2012)

”مخرش کعہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جوانہ سے رات کے

وقت عمرہ فرمایا (اور احرام باندھا) تو میں آپ ﷺ کی پیٹھ مبارک کو دیکھا گویا کہ وہ چاندی (پکھلا کر) ڈھالی گئی ہے۔

جب پست اقدس کی سفیدی اور دربائی کا یہ عالم ہے تو آپ ﷺ کے پیٹھ مبارک کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔

اور نبی اکرم ﷺ با وجود کل کائنات کے مالک ہونے کے بہت زیادہ قناعت فرمانے والے تھے غزوہ خندق میں آپ ﷺ نے اپنے نرم و ملائم بطن اقدس پر پتھر باندھ کر قناعت کی اعلیٰ ترین مثالی بے مثال بیان فرمائی۔

کل جہان ملک اور جو کی روئی غذا
اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام
جو کہ عزم شفاعت پہ کھج کر بندھی
اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام

حدیث نمبر 34:

حضور ﷺ کے پسینے کی مہک مبارکہ:

”قال علي رضي الله تعالى عنه: كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه المؤلو ولريح عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المسك الأذفر.“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سل الهدی والرشاد، المتنومی ۹۵، حما ع ابواب صفة جسدہ الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۶، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا پسینہ آپ ﷺ کے چہرے پر موتیوں کی مثل ہوتا اور رسول اللہ ﷺ کے پسینے

کی خوبی تو اذ فرمٹک سے بھی اعلیٰ و عمدہ تھی۔

حدیث نمبر 35:

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زوجت ابنتي وأحب أن تعيني بشيء فقال: ما عندك شيء ولكن ايتها بقارورة واسعة الرأس وعد شجرة. فأتاه بهما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلّط له فيها من عرقه حتى امتلأ القارورة فقال خذها وأمر ابنته أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به. فكانت إذا تطبت به يشم أهل المدينة رائحة ذلك

الطيب

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفر ۹۵۴، جما
ع ابواب صفة جسده الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۶، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا میا رسول اللہ ﷺ میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں آپ میری مدد فرمائیے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تم کھلے منه والی شیشی اور درخت کی ایک ثینی لے کر آؤ وہ دونوں چیزیں لے کر آیا تو حضور ﷺ نے دونوں کلائیوں سے پیسہ پونچھ کر شیشی میں بھر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو دو اور کہو کہ اس ثینی کوششی میں ڈبو کر خوبیوں گائے۔ چنانچہ جب اس کی بیٹی

اس خوشبوکوں کا تی تو اس سے سارا شہر مہک اٹھتا۔

حدیث نمبر 36:

”قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: كأن ريح عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح المسك بآبى وأمى لم أر قبله ولا بعده مثله.“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماع ابواب صفة حسنه الشریف ﷺ ج ۲، الباب التاسع عشر، ص ۸۵، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پینے خوشبو منشک سے اعلیٰ تھی میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں میں نے آپ سے پہلے اور بعد میں آپ جیسا نہیں دیکھا۔

حدیث نمبر 37:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمُّ بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلِيْثَ الْعَرَقِ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِينَنَا وَهُوَ مِنْ أَطَيْبِ الطَّيْبِ“

حوالہ: (مسلم بن حجاج القشيری ۲۶۱ھ- امام- صحیح مسلم (لاہور، مکتبہ رحمانیہ) کتاب الفضائل، باب طیب عرقہ والتبرک به ﷺ ج ۲ ص ۲۶۲)

☆ امام یوسف بن اسماعیل البهانی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المعجزات، القسم الثالث، الباب الثاني عشر، ص ۴۸۸، قدیمی کتب خانہ،

☆ الخصالص الکبری ج ۱، باب الآیۃ فی عرقہ الشریف ﷺ، ص ۱۱۴ (رحمانیہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے
ہمارے پاس لائے اور آرام فرمانے لگے تو آپ ﷺ کو پسند آگیا
میری والدہ (حضرت ام سلیم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس پسند کو ایک شیشی
میں محفوظ کرنے لگیں تو حضور ﷺ بیدار ہو گئے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا
اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ آپ کا پسند ہے ہم اس کو اپنی خوبیوں میں
ملائیں گے اور وہ ہماری سب سے بہترین خوبی ہو گی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ

”نرجو برکته لصبياننا قال أصبت“

حوالہ: (مسلم بن حجاج الفشيری ج ۲۱ هـ۔ امام۔ صحیح مسلم (لاہور، مکتبہ رحمانیہ)
کتاب الفضائل، باب طیب عرقہ والنبرك به ﷺ ج ۲ ص ۲۶۲،
☆، مسند امام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ج ۲۱، ص ۳۲۳، حدیث
نمبر: ۱۳۳۶۶، ۱۳۳۱۰ (۱۳۳۶۶، ۱۳۳۱۰))

ہم اسے اپنے بچوں کو برکت کے لیے لگائیں گے تو حضور ﷺ نے فرمایا
تو برکت پہنچ گئی۔

حدیث نمبر 38:

”عَنْ أُمِّ سَلَيمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيلُ عِنْدِي عَلَى نَطْعِ فَإِذَا عَرَقَ أَخْدَتْ سَكَافَعْجِنْتَهُ بِعَرَقِهِ“

تخریج: (الخصالص الكبير ج ۱، باب فی عرقہ الشریف، ص ۱۱۶ رحمانیہ)

حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول
اللہ ﷺ قیلوہ فرماتے تھے تو میں آپ ﷺ کے لیے چڑے کا بستر
بچھاتی جب آپ ﷺ کو پسند آتا تو میں اس کو شیشی کر (چند خوبیوں

کے مرکب) میں ملا یتھی۔

حدیث نمبر 39:

”عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي أُمُّ سَلَيْمٍ فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نَطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرُ الْعَرْقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرْقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطَّيْبِ وَالْقَوَارِيرِ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَيْمٍ مَا هَذَا قَالَتْ عَرْقُكَ أَدُوفُ بِهِ طَبِيبًا“

حوالہ: (الخصائص الكبرى ج ۱، باب العجزة فی بوله وغائطه ﷺ، ص ۱۲۱ رحمانیہ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اُم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قیولہ فرمانے کے لیے آتے تو اُم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ﷺ کے لیے چڑے کی چٹائی بچھاتی تو آپ ﷺ اس پر قیولہ فرماتے حضور ﷺ کو پسند بہت آتا تھا اُم سلیم اس کو جمع کر لیتی ایک روز حضور ﷺ نے فرمایا اے اُم سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں آپ ﷺ کا پسند خوشبو کے لیے جمع کر رہی ہوں۔

شرح:

امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا قَدْ سَبَقَ أَنَّهَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ الدُّخُولُ عَلَى الْمَعَارِمِ وَالنُّوْمُ عِنْدَهُنَّ وَفِي بُيُوتِهِنَّ وَجَوَازُ النُّوْمِ عَلَى الْأَدْمِ وَهِيَ الْأَنْطَاعُ وَالْجُلُودُ“

حوالہ: (شرح بروزی علی مسلم: کتاب الفصائل، باب طب عرفه و انتربک محدث ملک العینی ج ۱۵ ص ۸۷)

نبی کریم ﷺ حضرت اُم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے اور سو جاتے جیسا کہ ماقبل گزر چکا حضرت اُم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم ﷺ کی محرم تھیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محارم کے گھر جانا اور چڑھے کی چٹائی پر سونا جائز ہے۔

اور علامہ احمد شہاب الدین اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

حضرت اُم سلیم اور حضرت اُم حرام آپس میں بہنیں تھیں نبی کریم ﷺ ان دونوں کے ہاں آرام فرمایا ہے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اجنبی کے ہاں سونا جائز نہیں اور نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ علامہ عبدالبر وغیرہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ دونوں حضور ﷺ کی رضاعی خالہ تھیں اس وجہ سے حضور ﷺ ان کے ہاں جا کر سوتے تھے۔

حوالہ: (شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی، جلد ۶، ۷۹۱، فرید بکستان (لاہور، ۱۹۷۰))

”سبحان اللہ نبی اکرم ﷺ کے پیسے کا عالم دیکھیے کہ خوشبو جو کہ پہلے ہی بہترین ہوتی ہے لیکن جب اس میں نبی اکرم ﷺ کا پیسہ ملایا جائے تو صحابہ کا فرمان ہے کہ وہ اور بھی عمدہ اور بہترین ہو جاتی ہے۔ اور اس کو ہم اس لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کا پیسہ مبارک بھی متبرک ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے برکت حاصل کرتے رہے ہیں، ”ابوالاحمد غفرلہ“

اظہارِ عشق کے انداز بھی زائل ہوتے ہیں اور خوشبوئے وفا کے پیرائے بھی جدا

جدا ہوتے ہیں کبھی کوئی صحابی نبی اکرم ﷺ سے آپ ﷺ کے چادر مانگ لیتا ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا اور کبھی کوئی حصول برکت کے لیے آپ ﷺ کا پیسہ شیشی میں جمع کر لیتا ہے، حضور ﷺ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیاولہ (دن کے وقت سونا) فرماتے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کا پیسہ اور بال مبارک ایک شیشی میں جمع کر لیتے تھے اور اپنی خوشبو میں (بطور اضافہ) ملا لیا کرتیں تھیں۔ اور یہ کام وہ کس لیے کرتیں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبان سے سینے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو اپنے دل میں نقش کر لیجئے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

حدیث نمبر 40:

”عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطْقًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النُّطْقِ قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرْقِهِ وَشَعْرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ الْوَفَاءَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنْوَطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكَّ قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنْوَطِهِ“

حوالہ جات: (بخاری شریف: کتاب الاستدان، باب من رأى قوماً ف قال عدمهم،

حدیث: ۵۹۲۵)

☆ السن المأثور للشافعی، باب ما جاء في صلاة العوف، ج ۱، ص ۱۵۶، ح ۷۰.

☆ صحيح ابن حزيمة، باب ذكر الدليل على ان عرق، ج ۱، ص ۱۴۲، ح ۲۸۱.

☆ شرح مشكل الآثار، ج ۶، ص ۳۶۰، ح ۰۲۵۲۱

حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روايت کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اُم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم ﷺ کے لیے چٹائی بچھاتی تھیں تو حضور ﷺ حضرت اُم سلیم کے ہاں اس چٹائی پر قیلولہ فرماتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کی ظاہری آنکھیں بند ہو جاتیں تو اُم سلیم آپ ﷺ کا پیسہ اور بال مبارک ایک شیشی میں جمع کرتیں پھر اس کو ایک خوشبو والی شیشی میں (بطورِ اضافہِ خوشبو) ڈال دیتی۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقتِ اجل آیا تو آپ نے مجھے (حضرت ثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو) وصیت فرمائی کہ اس شیشی سے میرے کفن کو خوشبو لگائی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کو اسی شیشی سے خوشبو لگائی گئی۔

شرح:

سبحان اللہ صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور ﷺ کا پیسہ اور بال اتنے محظوظ تھے کہ ان کو وہ زمین پر گرنے نہ دیتے تھے کوئی آپ ﷺ کے بالوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ مجھے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے زیادہ محظوظ ہیں تو کوئی بغرضِ فتح و برکت ان کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیتا ہے اور کوئی ان کو دھوکہ مریضوں کو پلاتا ہے تو وہ شفایا جاتے ہیں، اور کوئی کہتا کہ ان کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ یہ بال مبارک مجھے سے جدا ہوں۔ سبحان اللہ۔

اور یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم ﷺ کی مہک مبارکہ والی اکثر احادیث کے راوی ہیں ذرا ان کے باعث کی کھجوروں کی بھی فضیلت سنتے جائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم ﷺ نے دعا فرمائی تو آپ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں دوبار پھل دیتا اور اس پھل سے بھی کستوری کے خوشبو آتی تھی۔

حوالہ: (کرامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمیٰ علیہ الرحمۃ، شہیر برادر، لاہور، ص ۱۴۵)

حدیث نمبر 41:

”انه مَلِئُ الشَّفَاعَةِ سَلَتْ اَى مَسْحٍ بِاصْبَعِهِ لِمَنْ اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى تَجْهِيزِ
بَنْتِهِ مِنْ عَرْقِهِ فِي قَارُورَةٍ وَقَالَ مَرْهَا فَلَتَطَيِّبْ بِهِ فَكَانَتْ اذَا
تَطَيِّبَتْ بِهِ شَمْ اَهْلَ الْمَدِينَةِ ذَالِكَ الطَّيِّبَ فَسَمِوَا بَيْتَ
الْمَتَطَيِّبِينَ“

حوالہ: (علی بن سلطان المعروف بملأ على الفاری، متوفی ۷۱۱ھ، جمع الوسائل فی شرح
السائل، باب ماجاء فی تعطر رسول اللہ ﷺ، ج ۲، ص ۲،
لانوار غوثیہ شرح السائل النبویہ، محمد امیر شاہ فادری گیلانی، حسیا، الدین یعنیکینش،
کراچی، ۱۹۷۲ء، ص ۲۸۶)

ایک صحابی نے اپنی لڑکی کے جہیز کے لیے کچھ کپڑے تیار کیے اور
حضور ﷺ کی بارگاہ میں آپ ﷺ کا پیسہ طلب کرنے کے لیے آیا
آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک کی ایک انگلی کو اس مبارک پیسے سے تر
کیا جو کہ ایک شیشی میں بند کیا ہوا تھا۔ پھر چند قطرے اس صحابی کو عطا
کیے اور فرمایا اپنی لڑکی کو کہہ دو کہ جب وہ جہیز کے کپڑے پہنے تو ان
قطروں کو بطور خوشبو استعمال کرے۔ اس کے بعد جب کبھی وہ نیک بخت
خاتون ہو خوشبو گاتی تو اہل مدینہ اس کو سو نگھٹے اور اس کے گھر خواتین جمع
ہو جاتیں اس کے بعد اس گھر کا نام ہی بیت المتطیبین (خوشبو سو نگھٹے

والوں کا گھر) مشہور ہو گیا۔

حدیث نمبر: 42:

خصائص کبریٰ میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَوْجٌ لِابْنَتِي وَأَحَبُّ أَنْ تَعِينَنِي قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ إِيْتَنِي بِقَارُورَةً وَاسِعَةً الرَّأْسِ وَعُودَ شَجَرَةٍ فَاتَّاهُ بِهِمَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِتُ الْعَرْقَ مِنْ ذِرَاعِهِ حَتَّى امْتَلَأَتِ الْقَارُورَةُ قَالَ فَخُذْهَا وَمَرِّ ابْنَتِكَ إِنْ تَفْمِسْ هَذَا الْعُودَ فِي الْقَارُورَةِ وَتَطْبِبْ بِهِ فَكَانَتْ إِذَا تَطَبَّبَتْ بِهِ يَشْمُ أَهْلَ الْمَدِينَةَ رَائِحةً ذَلِكَ الطَّيِّبُ فَسَمِوَا بَيْتَ الْمَطَبِّيِّينَ“

حوالہ: الخصائص الکبریٰ ج ۱، باب الآیۃ فی عرقہ الشریف ﷺ، ص ۱۱۵ (رحمانیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں آپ میری مدد فرمائیں آپ ﷺ نے فرمایا اس وقت تو کچھ موجود نہیں ہے لیکن تم کھلے منہ والی شیشی اور درخت کی ایک شہنی لے کر آؤ وہ دونوں چیزیں لے کر آیا تو حضور ﷺ نے دونوں کلائیوں سے پسینہ پونچھ کر شیشی میں بھر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو دو اور کہو کہ اس شہنی کوششی میں ڈبو کر خوبیوں گائے۔ چنانچہ اس کی بیٹی نے ایسا ہی کیا تو اس خوبیوں سے سارا شہر مہک اٹھا تو شہر والوں نے اس لڑکی کے گھر کا

نام، ہی، "بیت المطہین" (خوشبوؤں والا گھر) رکھ دیا۔

شرح:

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ جہیز میں لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو بھی آپ ﷺ کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجتے۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ کسی کو جہیز میں اعلیٰ چیز ہی دی جاتی ہے تاکہ اُس لڑکی کے سرال اُس کو طعنے نہ ماریں۔ اور حضور ﷺ نے اپنا پسینہ مبارک عطا فرمادیا کہ یہ پسینہ کوئی عام پسینہ نہیں۔ بلکہ یہ وہ پسینہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے عاشق اپنی جان کی بازی سے بھی گریز نہیں کرتا۔

شاید کہ اُتر جائے تیرے دل میں میری بات:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ حضور ﷺ نے بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے تو کیا رسول اللہ ﷺ ملعون چیز کو دیتے ہیں۔ یہ نہ تو حضور ﷺ کی شان کے لاٽ ہے اور نہ ہی آپ ﷺ کی صاحزادیوں کی شان کے لاٽ ہے۔ لہذا جہیز کو لعنت نہ کہنا چاہیے۔

ہاں ایک بات کا ضرور خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو عطا کیا ہے اس کے اندر رہ کر اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں یہ نہ ہو کہ ایک بیٹی کو بہت زیادہ دے دیں اور دوسری کی باری آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو۔ یا یہ کہ آپ اتنا دے دیں کہ ساری عمر اُس کا قرض ہی ادا کرتے رہیں۔ الغرض چادر دیکھ کر پاؤں پھلائیے، اور جہیز مانگنے والوں کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ جس نے اپنے دل کا لکڑا دے دیا اس سے جہیز کا مطالبہ

کرنا اچھا لگتا ہے؟ اور یہ بھی کہ ہم جس کو جہیز کے لیے رنگ کر رہے ہیں وہ بھی تو ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ جس طرح ہم مزدوری کرتے ہیں وہ بھی اپنی پیٹھ پر منٹی اٹھا کر کھاتا ہے۔ تو براہ کرم آپ کو اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کا واسطہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ہر طرح خیال رکھا کریں۔

جہیز دینے والے والدین سے بھی یہ گذارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بے حیائی کے لیے ٹھیک یا ایل سی ڈی نہ دیں بلکہ اس کی جگہ انکی تربیت کے لیے ایک قرآن مجید اور اسلامی کتاب میں دیں تاکہ یہ آپ اور آپ کی اولاد کے لیے ذریعہ نجات بنے۔

آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، بیٹے کو گرمی لگتی ہے چلو، اے سی دے دیتے ہیں یا لگوادیتے ہیں ایمان سے بتائیے کبھی آپ نے قبر اور خشر کی گرمی کے بارے میں بھی سوچا؟؟؟

اگر ہم اپنی اولاد سے واقع ہی محبت کرتے ہیں تو ان کو جہنم کا ایندھن کیوں بنا رہے ہیں؟؟؟

”شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات“

حدیث نمبر 43:

”وقال أنس رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الہدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، ج ۱ ابواب صفة حسدہ الشریف ﷺ، باب الناسع عشر، ص ۸۷، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نورانی رنگ والے تھے اور آپ ﷺ کا پسند موتویوں جیسا تھا۔

اس حدیث کی شرح ماقبل گزرنگی ہے۔

حدیث نمبر 44:

”وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه مثل المؤلؤ أطيب ريحان المسك الأذفر وكان كفه كف عطار مسها طيب أو لم يمسها به يصافحه المصافح فيظل يومها يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان من ريحها على رأسه.“

حوالہ: (امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، سبل الهدی والرشاد، المعنوفی ۹۵۴، جماع ابواب صفة جسدہ الشریف ملک العین ح ۲، الباب الناسع عشر، ص ۸۵، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ملک العین کا پسینہ آپ ملک العین کے چہرے پر موتیوں کی مثل ہوتا جس سے اذفر مشک سے بھی عمدہ خوشبو آتی تھی۔ اور چاہے آپ ملک العین خوشبو استعمال کرتے یا نہ کرتے آپ ملک العین کا ہاتھ مبارک عطار کے ہاتھ کی طرح مہکتا رہتا، جو کوئی آپ ملک العین سے مصافحی کرتا تو سارا دن آپ ملک العین کے دست مبارک کی خوشبو محسوس کرتا رہتا، اور جب کسی بچہ کے سر پر ہاتھ مبارک رکھ دیتے تو وہ بچہ اپنے سر کی مہک کی وجہ سے دوسرے بچوں سے جدا اور ممتاز ہو جاتا۔

حدیث نمبر 45:

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عَرَقُ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ الْلُّؤْلُؤِ أَطِيبُ مِنَ
الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ وَكَانَ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا
لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ إِلَّا شَبَهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، يَقُولُ
هِنْدُ: فِي أَعْيُنِنَا أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ”

حوالہ: (دلائل النبوة باب القمر) فیما اوتی یوسف علیہ السلام، ج ۱، ص ۶۰۷

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
کا پسینہ آپ ﷺ کے چہرے پر موتیوں کی طرح چمکتا جس سے مشک
جیسی خوبیوں آتی تھی اور آپ ﷺ لوگوں میں سے بہت خوبصورت اور
نورانی رنگ والے تھے جب بھی کوئی تعریف کرنے والا آپ ﷺ کی
تعریف کرتا تو آپ ﷺ کو چودھویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ
دیتا۔ حضرت حندرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ (اگر ہم سے حضور ﷺ
کے حسن کے بارے پوچھتے ہو) تو ہماری آنکھوں کو آپ ﷺ چودھویں
کے چاند سے بھی زیادہ حسین لگتے تھے۔ سبحان اللہ

حدیث نمبر 46:

خاصص کبری میں اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ إِلَّا
شَبَهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ عَرْقَهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ
الْلُّؤْلُؤِ أَطِيبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ“

حوالہ: (الخصائص الکبریٰ ج ۱، باب الآیۃ فی عرقہ الشریف ﷺ، ص ۱۱۵) (رحمانیہ)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام لوگوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ
مبارک میں نورانی کیفیت تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا
ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے کا پیسہ موتیوں کی طرح اور خوبصورتی میں مشک سے بھی عمدہ تھا۔
نوٹ: یہ احادیث ہی ایک دوسری کی شرح کر رہی ہیں باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن
جمال پر پہلے بھی بیان آچکا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے راستوں کا مہکنا
حدیث نمبر 47:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک جاتا تھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ۔

”قالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ اذَا مَرَّ فِي الطَّرِيقِ مِنْ طَرِيقِ
الْمَدِينَةِ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةً الْمَسْكَ وَقَالُوا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ
فِي هَذَا الطَّرِيقِ.“

حوالہ: (عبد مالک بن محمد ابراهیم السابوری متوفی ۷۰۵ھ، شرف مصطفیٰ، دارالسنان
الاسلامیہ، مکہ مکرمہ، ۱۴۲۴ھ، ج ۲، فصل ذکر الآیۃ فی عرقہ صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۱۱۶)

☆ امام یوسف بن اسماعیل البهانی، متوفی ۱۲۵ھ جامع المعجزات، الفصل الثالث، باب
الثانی عشر، ص ۴۸۸، فدبیعی کتب حانہ،

☆ ، الخصالص الكبير ج ۱، باب الآیۃ فی عرقہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۱۱۵، رحمانیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے راستوں میں سے کسی راستے سے

گزر جاتے تو اس راستے سے کستوری جیسی خوشبو مہکتی رہتی (جب لوگ اُس کو سو نگھتے تو) کہتے کہ رسول اللہ ﷺ کا اس راستے سے گزر رہا ہے۔

حدیث نمبر 48:

”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَالٌ لَمْ يَكُنْ يَمْرُ فِي طَرِيقٍ فَيَتَبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ إِنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طِيبِ عِرْقَهُ أَوْ رِيحِ عَرِقَهُ الشَّكُّ مِنْ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَكُنْ مَرْ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَجَدَ لَهُ.“

حوالہ جات: (سن دار می باب فی حسن النبی ﷺ ج ۱، ص ۲۰۷)

☆ احمد بن الحسین بن علی، ابو بکر البیهقی، متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة، باب ما جاء فی وجود رائحة الطیب من کل طریق سلکه، ج ۲، ص ۶۹، دار الكتب العلمیہ بیروت،

کذا امام یوسف بن اسماعیل النہائی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المعجزات، القسم الثالث، الباب الثاني عشر، ص ۴۸۸، قدیمی کتب خانہ،

الخصائص الکبری ج ۱، باب الآية فی عرفه الشریف ﷺ، ص ۱۱۴ (رحمانیہ)،

لانوار غونیہ شرح الشماں السویہ، محمد امیر شاہ قادری گیلانی، ضباء الدین پبلیکیشنز، کراچی، ۲۰۱۲، ص ۲۸۵)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میں کچھ اوصاف (ایے) تھے کہ جب حضور ﷺ کسی راستے سے گزرتے جاتے تو کوئی شخص آپ ﷺ کے پیچھے آتا تو وہ آپ ﷺ کے پیسے کی خوشبو کی وجہ سے جان لیتا کہ نبی اکرم ﷺ کا یہاں سے گزر رہا ہے اور جب آپ ﷺ کسی پھر اور درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ ﷺ کو سجدہ کرتا۔

حدیث نمبر 49:

امام بزار نے یوں روایت کیا ہے۔

”وروى البزار وأبو يعلى بسنده جيد عن أنس رضي الله عنه
كان إذا مسر في الطريق من طرق المدينة وجد فيه رائحة
المسك فيقال مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
من هذا الطريق.“

حوالہ: (شرح شفاء، ملأ على قارئ، القسم الأول في تعظيم العلى الاعلى جل وعز، الباب
الثانی فی تکمیل اللہ تعالیٰ لہ المحاپین خلقاً و خلقاً، فصل و امانظافۃ جسمہ و طیہ ج ۱، ص ۱۶۷)

امام بزار اور ابو یعلیٰ نے سند جید کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ کے راستوں میں
سے کسی راستے سے گزرتے تو اس راستے سے کتوری کی مہک آتی تو لوگ
کہتے کہ نبی اکرم ﷺ کا یہاں سے گزر رہا ہے، ”سبحان اللہ“

شرح:

کسی نے اس کی کیا خوب شرح کی کہ۔

ولو ان رکباً يمموك لقادهم... نسيمك حتى يستدل به الركب
اور اگر کوئی قافلہ آپ ﷺ کا قصد کرے تو آپ ﷺ کے جسم کی خوبیوں
قافلے کی راہنمائی کرتی ہے یہاں تک کہ قافلہ آپ ﷺ تک پہنچ جاتا ہے۔
اور کوئی یوں کہتا ہے۔

يروح على تلك الطريق التي غدا... عليها فلا ينهى علاه نهاته
تنفسه في الوقت أنفاس عطره... فمن طبيه طابت له طرقاته

تروح له الأرواح حيث تنسمت... لها سحرا من حبه نسماته

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشافعی، سبل الهدی والرشاد، المتوفی ۹۵۴ھ، جماعت ابواب صفة جسدہ الشریف ﷺ ج ۲، الباب العاشر عشر، ص ۸۷، مکتبہ نعمانیہ پشاور)

آپ ﷺ ان را ہوں سے لوٹتے ہیں جن سے آپ ﷺ کا گزر ہوا ہے اور آپ ﷺ کی انتہا آپ ﷺ کی مزید رفتہ کو روک نہیں سکتی جب آپ ﷺ سانس لیتے ہیں تو دل و جان معطر ہو جاتے ہیں اور آپ ﷺ کی خوبیوں سے راستے مہک جاتے ہیں جب آپ ﷺ کی خوبیوں کے جھونکے آتے ہیں تو ارواح کو سکون ملتا ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ عطار نے کیا خوب کہا کہ:

بطیب رسول اللہ طاب نسیمهها

المسک ما الکافور ما الصندل الطیب

آپ ﷺ کی خوبیوں سے مدینہ منورہ کی ہوا میں خوبیوں دار ہو گئیں کیا ہے کستوری اور کافور اور کیا ہے عطر صندل تر و تازہ۔

اور اعلیٰ حضرت امام الہست علیہ الرحمۃ نے اس شعر کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔

بطیب رسول اللہ طاب نسیمهها

المسک والکافور المندل الرطب

حالہ: (سیرت مصطفیٰ جان رحمت ج ۱، ص ۷۴۸)

یعنی رسول اللہ ﷺ کی خوبیوں سے مدینہ کی فضاء مہک رہی ہے مثل کافور کیا ہیں ان کی مثل تو وہاں کھجوروں میں خوبیوں ہے۔

اعلیٰ حضرت امام الہست علیہ الرحمۃ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی کہ

اُن کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں
جس راہ پل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں
وہ قدم مبارک جو تاج عرش بنے:
نبی اکرم ﷺ کے دونوں پاؤں زم اور پُر گوشت تھے اور اتنے خوب صورت
تھے کہ کسی انسان کے اتنے خوب صورت نہ تھے جب آپ ﷺ پلتے تو قدم مبارک
کو قوت اور وقار اور تواضع کے ساتھ اٹھاتے جیسا کہ ہمت اور شجاعت کا قاعدہ
ہے۔

(1) حضرت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں
 ”كَانَ فِي سَاقِي رَسُولِ اللَّهِ مَثَلُ الْجَنَّلِمُ حَمُوشًا“
 رسول الله ﷺ کی پنڈ لیاں مبارک لطیف و نازک تھیں۔
 حوالہ: (ترمذی شریف: ابواب المناقب، باب صفة النبی ﷺ حدیث نمبر: ۳۶۴۵، ج ۵، ص ۶۰۲)

(2) حضرت انس بن مالک رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں
 ”وَلَمْ يُرَ مُقْدِمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسِ لَهُ“
 اور آپ ﷺ کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ آپ ﷺ اپنے پاؤں لوگوں
کے سامنے کر کے یا لوگوں کی طرف پھیلا کر بیٹھے ہوں۔
 حوالہ: (ترمذی: ابواب الصفة القيامة والرقائق والورع، باب (ناموسوم) ج ۴، ص ۶۵۴، حدیث
نمبر: ۱۰۴۹۰)

(3) ایک مرتبہ حضرت ابوطالب کو پیاس لگی تو۔
 ”قَالَ النَّبِيُّ مَثَلُ الْجَنَّلِمُ عَطَشٌ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْنَزَ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ
 وَضَرَبَ بِقَدَمِيهِ الْأَرْضَ فَغَرَّاجَ الْمَاءُ فَقَالَ اشْرَبْ“

انہوں نے حضور ﷺ سے کہا اے بھتیجے میں پیاسا ہوں اور میرے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور ﷺ اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا فرمایا اے چچا پانی پی لو۔

حوالہ: (شفاء شریف، و مَا يشبه هذام معجزاته، ج ۲، ص ۲۹۰)

☆ شرح شفال الملا على فاری، باب من معجزاته تکثیر الطعام، ج ۶۰۵، ۱

☆ السیرة الحلبیة: علی بن ابراهیم بن احمد الحلبی المتنوفی: ۱۴۰۱هـ، باب ذکر نبذ من معجزاته، ج ۲

ص ۱۳۴: دار الكتب العلمية،

(4) حضور ﷺ کے قدم مبارک وہ قدم ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ مع حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم احمد پھاڑ پر کھڑے تھے کہ وہ پھاڑ حرکت کرنے لگا۔

”فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ مَلِئُ الشَّجَرَاتِ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَئُبْتُ أَخْدَأَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَ صَدِيقٌ وَ شَهِيدٌ“

حوالہ جات: (بخاری شریف، کتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متعدد خليلًا، ج ۵،

ص ۹، حدیث نمبر: ۳۶۷۵، راد طوق النجاة،

☆ مسند ابی داؤد الطیالسی، ج ۳، ص ۴۸۴، ح ۲۰۹۷

☆ فضائل صحابہ لاحمد بن حنبل، فضل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج ۱، ص ۵۰۲، ح ۸۱۸

☆ السنۃ لابن ابی عاصم، ج ۲، ص ۶۲۱، ح ۱۴۲۸

☆ السنن الکبریٰ للنسائی، ج ۷، ص ۳۰۶

☆ صحیح ابن حبان، ج ۱۵، ص ۲۸۰، ح ۶۸۶۵

تو حضور ﷺ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا احمد ٹھہر جا تجوہ پر ایک نبی ایک صدقیق اور دشہید ہیں۔ (تو وہ ٹھہر گیا۔)

ایک ٹھوکر سے احمد کا ززلہ جاتا رہا

رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیاں

پھاڑ آپ ﷺ کے جلال سے کاپنے لگا یا جیسا کہ یہ حضور ﷺ کے جلال کے بعید نہیں۔

یا آپ ﷺ کی آمد کی خوشی میں جو منے لگا کیونکہ حضور ﷺ نے خود فرمایا کہ:

”هذا جبل يحبنا و نحبه“ .

تخریج: (بخاری شریف، کتاب الجهاد و سیر، باب فضل الخدمة في الغزو، حدیث: ۲۸۸۹، ج ۴، ص ۳۵)

☆ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک، کتاب الجامع، باب ماجاه، فیامر المدينة کتاب الجامع کی حدیث نمبر: ۲۰، ج ۲، ص ۸۹۳

☆ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر: ۱۷۱۷،

☆ سنن سعید بن منصور، حدیث نمبر: ۲۶۷۶،

☆ منصف ابن شیبہ، حدیث نمبر: ۳۷۰۰،

کہ یہ (احد) پھاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

محبوب کی آمد پر پھاڑ بھی جھوم جھوم کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو اے اشرف الخلوقات انسان تجھے کوئی چیز نبی اکرم ﷺ کی آمد پر خوشی منانے سے روکتی ہے؟؟؟

حدیث نمبر 50:

نبی اکرم ﷺ کے بول و غائط اور خون مبارکہ کی خوشبو، برکت اور طہارت:

”عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله
 (ﷺ) انك تدخل الخلاء فإذا خرجت دخلت على
 اثرك فلا ارى شيئاً الا اني اجد رائحة المسك“

حوالہ: (عبد مالک بن محمد ابراهیم النسابوری متوفی ۴۰۷ھ، شرف مصطفیٰ، دار البشائر الاسلامیہ، مکہ مکرہ، ۱۴۲۳ھ، ج ۲، فصل ذکر الائمه فی بوله ﷺ، ص ۱۱۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مردی ہے کہ میں نے حضور ﷺ

سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو میں آپ ﷺ کے فوراً بعد (بیت الخلاء میں) داخل ہوتی ہوں تو میں کوئی چیز نہیں دیکھتی مگر مجھے مشک کی خوبصوراتی ہے۔

حدیث نمبر 51:

“عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْغَ�يْطَ دَخَلَتْ فِي أَثْرِهِ فَلَا أَرَى شَيْئًا إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَشْمَعُ رَأْيَحَةَ الطُّبِيبِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا غَائِشَةً أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ أَجْسَادَنَا نَبَتَتْ عَلَى أَرْوَاحِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ ابْتَلَعَتْهُ الْأَرْضُ”

حوالہ: (امام یوسف بن اسماعیل التہانی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المعجزات، القسم الثالث، الباب الثاني عشر، ص ۴۹۰، قدیمی کتب خانہ)

☆[☆]الخصالص الكبير ج ۱، باب المعجزة فی بوله وغایطه ﷺ، ص ۱۲۰، رحمانیہ)
ام مؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
جب بیت الخلا تشریف لے جاتے تو اس کے فوراً بعد میں وہاں جاتی تو بجز
پا کیزہ خوبصورت کے کچھ بھی نہ پاتی میں نے اس کا ذکر حضور ﷺ سے کیا تو
آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم واقف نہیں ہو کہ ہمارے (انبیاء) کے اجسام
کی نشوونما جنتی ارواح پر ہوتی ہے اور چیز ہمارے جسموں سے خارج
ہوتی ہے اسے زمین نگل جاتی ہے۔

حدیث نمبر 52:

“عَنْ لَيْلَى مَوْلَةِ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَدَخَلَثُ فَلَمْ أَرْ شَيْءًا
وَوَجَدَثُ رِيحَ الْمِسْكِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَرْ
شَيْئًا قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ أُمِرَتْ أَنْ تَكْفِيهِ مِنَ مَعَاشِرِ الْأَنْبِيَاءِ“

حوالہ: (امام یوسف بن اسماعیل النبهانی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المعجزات، القسم الثالث،
باب الثاني عشر، ص ۴۹۰، قدیمی کتب خانہ،

☆الخصائص الکبریٰ ج ۱، باب المعجزة فی بوله وغایطه ملک الجنة، ص ۱۲۱، رحمانیہ)

حضرت لیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام مؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کی باندی فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ملک الجنة قضاۓ
 حاجت کے لیے آئے تو آپ ملک الجنة کے فوراً بعد میں داخل ہوئی تو میں
نے کچھ نہ دیکھا اور میں نے مشک جیسی خوشبو پائی تو میں نے عرض کیا یا
رسول اللہ ملک الجنة میں نے (بیت الخلام) کچھ نہیں دیکھا تو
آپ ملک الجنة نے فرمایا کہ زمین کو حکم ہے کہ ہم انبیاء کے اخراج کو چھپا
۔

حدیث نمبر 53:

”عَنْ لِيلَى مُولَى عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَلَتْ
يَارَسُولَ اللَّهِ مَلِكَ الْجَنَّاتِ إِنِّي تَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَإِذَا خَرَجْتُ دَخَلْتُ
فِي اثْرِكَ فَمَا أَرَى شَيْئًا إِلَّا إِنِّي أَجَدَ رَائِحَةَ الْمِسْكِ قَالَ
إِنَّ مَعَاشَ الْأَنْبِيَاءِ تَبَتَّ اجْسَادُنَا عَلَى أَرْوَاحِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَا
خَرَجَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ ابْتَلَعَهُ الْأَرْضُ.“

حوالہ: (امام یوسف بن اسماعیل النبهانی، متوفی ۱۳۵ھ جامع المعجزات، القسم الثالث،
باب الثاني عشر، ص ۴۹۰، قدیمی کتب خانہ،

☆ الخصائص الكبرى ج ۱، باب المعجزة في قوله وغافطه ﷺ، ص ۱۲۱، (رحمانيه)

حضرت لیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ بیت الخلا میں داخل ہوتے ہیں تو جب آپ ﷺ باہر آتے ہیں تو آپ ﷺ کے فوراً بعد میں داخل ہوتی ہوں تو میں کچھ نہیں دیکھتی لیکن میں مشک جیسی خوبی پاتی ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے اجسام جستی ارواح کی طرح نشوونما پاتے ہیں جو کچھ ہم سے خارج ہوتا ہے اس کو زمین کھا جاتی ہے۔

حدیث نمبر 54:

”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَوْلَمْ يَأْتِ بِالْقُرْآنِ لَآمَنَتْ بِهِ تَصْحَرَنَا فِي جَبَانَةَ تَنْقِطُعُ الْطَّرَقَ دُونَهَا فَاخْذَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضُوءَ وَرَأَى نَخْلَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرَ اذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا اجْتَمِعَا فَاجْتَمَعَا حَتَّى كَانُهُمَا أَصْلَ وَاحِدَ فَتَوَضَّأَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَادْرَتِهِ بِالْمَاءِ وَقَلَتْ تَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَظْلِمَنِي عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ فَأَكَلَهُ فَرَأَيْتَ الْأَرْضَ بَيْضَاءَ فَقَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا كُنْتَ تَوَضَّأَتْ قَالَ بَلَى وَلَكُنْ مِعْشَرَ النَّبِيِّنَ أَمْرَتِ الْأَرْضَ أَنْ تَوَارِي مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْتَّوْلِ ثُمَّ اتَّرَقَتِ النَّخْلَتَيْنِ“

حوالہ: (شرف مسطفی)، باب فی ذکر صفة رسول ﷺ و خلقه و نعمته و خلیلته فصل ذکر

الآية في بوله، ج ۲، ص ۱۱۵ -

☆ خصائص کبریٰ، ذکر المعجزات التي وقعت عبد وفادة الوفود، باب ما وقع فی وفـد الجن،

(۱۰۰۰) ج

اس حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے شرح کے ساتھ یوں فرماتے ہیں،

حضرت چابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھا
حضور ﷺ کو قضاۓ حاجت کی ضرورت ہوئی و متفرق پیڑا لگ اگ
کھڑے تھے اور کچھ پھر ادھر ادھر پڑے تھے، حضور ﷺ نے فرمایا اے
جا بر ان پیڑوں اور پھر وہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ تم
آپس میں مل جاؤ حضرت چابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا دونوں
پیڑوں نے جنبش کی اور اپنے تمام رگ دریشہ زمین سے نکالے ایک ادھر
سے چلا اور دوسرا ادھر سے اور دونوں آپس میں مل گیا اور پھر وہ نے ایک
دیوار کی مثل ہو کر ارنا شروع کیا اور درختوں کے پاس آ کر کھڑے ہو
گئے۔

پھر حضور ﷺ وہاں تشریف لے گئے اور قضاۓ حاجت فرمائی جب آپ ﷺ
فارغ ہوئے تو میں گیا اس قصد سے کہ جو کچھ آپ ﷺ سے خارج ہوا اس کو کھاؤں،
وہاں کچھ نہیں تھا البتہ اس جگہ مفک کی خوبیوں آرہی تھی، فرمایا ان پیڑوں اور پھر وہ سے
کہو کہ اپنی اپنی جگہ چلنے جاؤ، وہ اپنی اپنی جگہ چلنے گے۔

میں نے عرض کیا حضور میں اس نیت سے گیا تھا کہ جو کچھ ملے گا اے
تم کا کھاؤں وہاں سوائے مفک کی خوبیوں کے اور کچھ نہ پایا؟ فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ

زمیں جوانبیاء سے خارج ہوتا ہے اس کو نگل لیتی ہے۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو زمین نہیں چھوڑتی۔

حوالہ: (سیرت مصطفیٰ جان رحمت ﷺ، از افادات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ، ج ۱، ص ۷۴۹، شیبر برادرز لاہور،)

حدیث نمبر: 55

”وروى الشعبي قال هاج الدم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحجمه أبو طيبة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشكموه فأعطوه ديناراً وقال ابن الزبير واره يعني الدم قال فتوارى ابن الزبير فشرب الدم فبلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعله فقال أما إنما لا تصيبه النصار أو لا تمسه النار قال الشعبي فقيل لا ابن الزبير كيف وجدت طعم الدم فقال أما الطعم فطعم العسل وأما الرائحة فرائحة المسك“

امام شعبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے خون مبارک نے جوش مارا تو ابو طیبہ نے آپ ﷺ کو پچھنا لگایا (فصد لگایا) تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس کو اجرت دو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اُن کو ایک دینار دیا، حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کا خون مبارک چھپا لیا، امام شعبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خون مبارک کو چھپا لیا اور پھر پی لیا، نبی اکرم ﷺ کو جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فعل رکی

خبر ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کو (ابن زبیر کو) آگ نہیں چھوئے گی۔ امام شعیؑ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی اکرم ﷺ کے خون مبارک کا ذائقہ کیسا پایا؟؟

تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس کا ذائقہ تو شہد کے ذائقے جیسا تھا اور اُس کی خوبیوں میں جیسی تھی۔

حوالہ: (شرح شفاء، ملا علی فاری، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلی جل و عز، الباب الثاني فی تکمیل اللہ تعالیٰ لہ المحسان خلقاً و خلقاً، فصل واما نظافة جسمه و طیبه ج ۱، ۱۷۰)

شرح:

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے فضلات مبارکہ عام انسان کی طرح نہیں تھے بلکہ خوبصوردار اور پاک تھے۔ اور کبھی بھی نبی اکرم ﷺ کا بول و برآز مبارک زمین پر نہ دیکھا گیا۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا۔

امام شہاب الدین المقری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”مَا ظَهَرَ بِوْلُهُ مَلِكُ الْجَنَّاتِ عَلَى الْأَرْضِ فَطُّ“

زمین پر آپ ﷺ کا بول کبھی بھی ظاہرنہ ہوا

حوالہ: (یوسف بن اسماعیل النہجی، جواہر البخار فی فضائل النبی المختار، ج ۲، ص ۱۳۳، دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۵۵ھ ۱۹۱۹ء، من جواہر الامام شہاب احمد المقری)

طہارت فضلاتِ نبی کریم ﷺ:

ہم یہاں پر حضور ﷺ کے فضلات مبارکہ کے پاک اور طیب و ظاہر ہونے پر چند دلائل پیش کر رہے ہیں۔

(1) "عَنْ أُمِّ إِيمَنِ قَالَتْ قَامَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّيلِ إِلَى فَخَارَةِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيلِ وَأَنا عَطْشَانَةُ فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرْتُهُ فَضَحِكَ وَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَأَتُسِيْجَعَنَّ بَطْنَكَ أَبَدًا"

حواله: (المستدرک على الصحيحين: أبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویہ بن نعیم النیسابوری، المتوفی ۴۰۵ھ، تحقیق: مصطفیٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، الطبعۃ الأولى ۱۴۱۱ھ-۱۹۹۰م).

☆ یوسف بن اسماعیل البهانی ۱۲۵ھ، امام، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار (بیروت دار الكتب العلمیة ۱۴۱۲ھ-۱۹۹۵م)، ج ۱، ص ۴۸۸

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ رات کو اٹھے اور ایک پیالے میں بول فرمایا پھر اسکے بعد میں اٹھی اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی میں نے اس پیالے میں جو کچھ تھا پی لیا صبح کے وقت میں نے حضور ﷺ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیٹ کو آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔

(2) ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے پچھنا لگوایا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خون دیا کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر بہا آؤ اس صحابی رسول ﷺ نے نبی اکرم ﷺ کا خون پی لیا تو آپ نے فرمایا۔

"فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَحْكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَسْتُ عَلَيْ دَمَكَ أَنْ أَهْرِيقَهُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ فِي بَطَنِي قَالَ إِذْهَبْ فَقَدْ أَخْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ"

حواله: (یوسف بن اسماعیل البهانی ۱۲۵ھ، امام، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار

(بیروت دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۲ھ ۱۹۹۸ء، ج ۱، ص ۴۸۷)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم نے خون کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ
میں نے بُرا محسوس کیا کہ آپ ﷺ کے خون کو زمین پر بہاؤں پس وہ
میرے پیٹ میں ہے (یعنی میں نے پی لیا ہے) تو حضور ﷺ نے فرمایا
جا چلا جاتونے اپنے آپ کو آگ (دوزخ) سے بچالیا۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کے فضلات مبارک امت کے حق
میں پاک ہیں اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نوش فرمایا، اور دوسری بات یہ
کہ نبی اکرم ﷺ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنا منہ دھونے کا حکم بھی نہ
دیا۔ بلکہ آپ نے ان کو جہنم کی آگ کے حرام ہونے کی بشارت دی۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ اور طہارت فضلاتِ انبیاء علیہم السلام:

حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ،
”انبیاء کرام علیہم السلام کے فضلات شریفہ (امت کے حق میں) پاک ہیں اور
ان حضرات کے والدین کے وہ نطفے بھی پاک ہیں جن سے یہ حضرات پیدا ہوئے“۔

پھر فرماتے ہیں کہ،

سب انبیاء علیہم السلام طاہر محفوظ ہیں اور جو شیء ان سے علاقہ رکھنے والی ہے سب
ظاہر ہاں ان کے فضلات ان کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے حق میں ہمارے
فضلات ہیں اگر ان سے کوئی فضلہ خارج ہو جو ہمارے لیے ناقص و ضوبہ ہے تو بے شک
ان کا وضوبھی ثبوت جاتا ہے۔

پھر آپ علیہ الرحمۃ عاشقانہ انداز میں فرماتے ہیں۔

میری نظر میں امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کی وقعت ابتدأ امام بدرا الدین محمود عینی علیہما الرحمۃ سے زیادہ تھی۔ فضلات شریفہ کی طہارت کی بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے، امام ابن حجر نے ابحاثِ محمد ثانہ لکھی کہ یوں کہا جاتا ہے اور اس پر اعتراض ہے اخیر میں لکھا کہ فضلات شریفہ کی طہارت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔ امام عینی علیہما الرحمۃ نے بھی شرح بخاری میں اس بحث کو بہت بسط سے لکھا ہے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابحاث ہیں جو شخص طہارت کا قائل ہو میں اس کو مانتا ہوں اور جو اس کے خلاف کہے اس کے لیے میرے کان بہرے ہیں میں مستانہیں۔
یہ لفظ ان کی کمال محبت کو ثابت کرتا ہے اور میرے دل میں ایسا اثر کر گیا کہ
میرے دل میں ان کی وقعت زیادہ ہو گئی۔

حوالہ: (ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ چہارم، ص ۴۵۷-۴۵۸، مکتبۃ المدبینہ دعویٰ اسلامی، -)

☆ سیرت مصطفیٰ جان رحمت ﷺ، از افادات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ، ج ۱، ص ۷۴۹-۷۵۰، شیر برادر لاهور،)

امام ابن حجر عسقلانی اور امام بدرا الدین محمود عینی علیہما الرحمۃ نے اپنی اپنی شروحات میں جہاں فضلات مبارکہ پر بحث کی ہے ان کے حوالے یہ ہیں۔

حوالہ: (عمدة القاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، ج ۲، ص ۴۸۱۔ فتح الباري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، ج ۲، ص ۱۱۶)

مزید حوالہ جات کے لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب کی کتاب "شرب بول نبوی ﷺ" کا مطالعہ فرمائیں۔
(ابوالاحمد غفرلہ)

نکتہ مفیدہ:

اُپر بیان ہوا کہ حضرت اُم ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم ﷺ کا بول مبارک نوش کر لیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، ”کہ تم نے ہمیشہ کے لیے اپنے پیٹ کو آگ (جہنم) سے محفوظ کر لیا ہے“ اور ایک دوسری حدیث میں عام آدمی کے بول کے بارے یہ الفاظ آتے ہیں۔

”عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ: مَرْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبَرِينَ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِرُهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنُّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَاهُ بِعَسِيبٍ رَطِيبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: لَعْلَهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَأْ“

حوالہ: (بعاری شریف، کتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، ج ۲، ص ۹۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو نبی اکرم ﷺ (نے اپنی گناہ غیر محدود سے قبر والوں کا مشاہدہ کیا اور) فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا یہ قبر والوں نے بول (پیشتاب) سے نہیں بچتا تھا اور یہ چغل خوری کرتا تھا (یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں لیکن نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کی نسبت کہا کہ لوگ ان کو کبیرہ گناہ شمار نہیں کرتے، ابوالاحمد) پھر نبی اکرم ﷺ نے (ان کے درد کا مدا فرماتے ہوئے) ایک ترشاخ منگوائی اور اس کے دو حصے فرمایا ایک حصہ ایک قبر پر اور ایک حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا جب تک یہ شاخ

تر رہے گی یقیناً ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

اب یہ دونوں احادیث آپ کے سامنے ہیں ایک میں نبی اکرم ﷺ کے بول مبارک کی بات ہے جس کو پیا جا رہا ہے اور دوسری میں عام آدمی کے بول کی بات ہے جس میں ضمناً اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک حدیث میں یہ بیان کہ نبی اکرم ﷺ کا بول مبارک بارے کا سارا حضرت امِ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں چلا گیا، اور دوسری میں عام آدمی کے بول کے ایک قطرے سے بھی نہچنے کا حکم (کہ جہاں لگے گا وہ جگہ یا چیز نہیں ہو جائے گی)، ایک حدیث میں یہ بیان کہ جب نبی اکرم ﷺ کا بول مبارک پیا گیا تو نبی اکرم ﷺ مسکرا پڑے اور بول مبارک پینے کی وجہ سے جہنم سے آزادی اور بیماری سے دائیٰ تحفظ کی بشارت دی۔ اور دوسری حدیث میں آدمی کے اپنے بول سے نہ نہچنے کی وجہ سے عذاب قبر کی وعدید سنائی۔

اے صاحبانِ عقلِ سليم، اے صاحبانِ دنیاۓ علم و دانش، اے خدا تعالیٰ کو خاضر و ناظر رکھ کر میزانِ انصاف سے حق کا پرچار اور باطل کا ابطال کرنے والو، کیا میری یہ بات درست نہیں کہ، ”نبی اکرم ﷺ کا بول مبارک ہی ہمارے بول جیسا نہیں چہ جائیکہ سراپائے نبوت کو ہم اپنے ساتھ تشبیہ دیں“، آپ ہی بتائیے کہ عقلِ سليم کا فیصلہ کیا ہو گا؟؟؟ شرطِ محبتِ نبوی ﷺ اور انصاف۔

آپ ﷺ نے جن پتھروں کو استعمال کیا ان سے خوشبو آتی

حدیث نمبر 56:

ایک صحابی رسولِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قضاۓ حاجت فرمائی تو میں اس جگہ گیا جہاں آپ ﷺ نے قضاۓ حاجت فرمائی تھی۔

”وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَأَخْدُتُهُنَّ
فَوَجَدْتُ لَهُنَّ رَائِحَةً طَيِّبَةً وَعِطْرًا“

میں نے اس جگہ تین پتھروں کی وجہ تو ان کو اٹھالیا ان سے مجھے بہت ہی عمدہ خوبصورتی تھی۔

حوالہ: (المواهب الدنية، المقصد الثالث، الفصل الأول في کمال خلقیہ ج ۲، ص ۹۱)

حدیث نمبر 57:

اور ایک روایت میں اس کے آگے یہ الفاظ بھی ہیں۔

”فَكُنْتُ إِذَا جِئْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْتَجِدَ أَخْدُتُهُنَّ فِي كَمِي
فَتَغْلُبُ رَائِحَتُهُنَّ عَلَى رَائِحَةِ مَنْ تَطَيِّبَ وَتَعْطَرَ“

کہ جب جمعہ کا دن آتا تو میں ان پتھروں کو اپنی آستین میں لے کر مسجد میں جاتا تو اس کی خوبصورت شخص کی خوبصورتی جو وہ خوبصورتگا کر آتا تھا۔

حوالہ: (شرح شفاء، ملا على قاری، القسم الأول في تعظيم العلي الاعلى جل وعز، الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقاً وخلقها، فصل واما نظافة جسمه وطبيه ج ۱، ص ۱۷۰)

شرح:

سبحان اللہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول تھا کہ جہاں سے بھی نبی اکرم ﷺ کا تبرک ملاؤں کو اٹھا کر محفوظ فرمائیتے تھے اور اس کو ضائع نہ کرتے تھے اسی طرح اس مذکور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ ﷺ کے استعمال شدہ پتھروں کو اٹھالیا یہ وہ پتھر تھے جن کو نبی اکرم ﷺ نے بطور استغفار استعمال فرمایا تھا لیکن لاکھوں جانیں قربان صحابہ کی محبت رسول ﷺ پر کہ بالکل بغیر کسی نفرت کے ان پتھروں کو اٹھایا

اور پھر، نور علی نور، یہ کہ جمعہ کے دن اپنی آستین میں رکھتے تھے اور پھر مسجد میں؟؟؟ بسیان اللہ، اور پھر اور مزے کی بات یہ کہ نماز کے دوران بھی ان کو اپنی آستین نے نکالتے نہیں، وہ اصحاب رسول ﷺ تمہاری محبت رسول ﷺ پر دو جہاں قربان کروں کہ تمہاری زندگیوں سے ہم کو محبت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کو پڑھ کر مومن کا دل باغِ باغ ہو جاتا ہے۔

پھر ان پھروں کی بھی شان نہ بھولیں کہ یہ بھی وہ پھر ہیں جو حضور ﷺ کے جسم انور سے مس ہونے کی وجہ سے عطر فشائی کر رہے ہیں اور اس شدت اور جوش سے مہک رہے ہیں کہ کسی آدمی کی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بسیان اللہ، بسیان اللہ،

چلا گیا وہ پھول مہک پھر بھی آتی ہے

حدیث نمبر 58:

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

”قَالَتْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ فَمُرِبِّي جَمْعَ الْأَكْلِ وَ أَتَوْضَأُ مَا يَذْهَبُ رِيحُ الْمِسْكِ مِنْ يَدِي“

کہ جس دن رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا اس دن میں نے اپنا ہاتھ حضور ﷺ کے سینے مبارک پر کھا تھا اب تک بہت جمعے گزر چکے ہیں کہ میں اسی ہاتھ سے کھاتی بھی ہوں اور وضو بھی کرتی ہوں (اس کو دھوتی بھی ہوں) مگر وہ خوشبو ابھی تک میرے ہاتھ سے آتی ہے۔

حوالہ: (دلائل النبوة لبیهقی، باب ماجاہ یونزٹر عنہ ﷺ، ج ۷، ص ۲۱۹،
 ☆ السیرۃ النبویۃ لابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر، ذکر امرہ علیہ السلام ابابکر، ج ۴،
 ص ۴۷۸، دار المعرفۃ للطباعة والنشر والتوزیع بیروت،
 ☆ خصائص الکبری، ذکر ما وقع عند وفاتہ ﷺ،
 ☆ انوار غوئیہ شرح الشماںل النبویہ، محمد امیر شاہ قادری گیلانی، ضیاء الدین پبلیکیشنز،
 کراچی، ۲۰۱۲، ص ۲۹۳)

شرح:

اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن ابی بکر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
 ”وروی ابن ابی بکر فی سیرتہ أَنَّ امَّا سَلَمَةً وَضَعَتْ يَدَهَا
 عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ
 فَمَكَثَتْ جَمِيعًا لَا تَأْكُلُ وَلَا تَتَوَضَّأُ إِلَّا وَجَدَتْ رِيحَ
 . الْمَسْكَ بَيْنَ يَدَيْهَا.“

حوالہ: (شرح شفاء، ملأ على فاری، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلی جل وعز، الباب
 الثاني فی تکمیل اللہ تعالیٰ لہ العھاں خلفاً و خلفاً، فصل واما نظافت جسمہ و طیہ ج ۱، ص ۱۶۷)
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد
 اپنا ہاتھ نبی اکرم ﷺ کے سینہ اقدس پر رکھا، کئی جمع گزرنے کے باوجود
 جب بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا کھاتیں یا وضو کرتیں تو ان
 کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔

حدیث نمبر 59:

”عَنْ عَلَیٰ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ غَسَّلَتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
 فَذَهَبَتِ الْأَنْظَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَمِتِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا فَقُلْتُ طِبْتَ

حَيَا وَمَيَّتَا قَالَ: وَسَطَعَتْ مِنْهُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ نَجِدْ مِثْلَهَا قَطُّ

حوالہ: (الشفاء، فصل اما نظافة جسمه و طيبة، ج ۱، ص ۶۴،

﴿لَدَائِلُ النَّبُوَّةِ لِلْبَيْهَقِيِّ، ماجاه فی دفن رسول الله ﷺ﴾، ج ۷، ص ۲۵۳،

﴿السیرة النبویہ لا بن کثیر، ذکر اعتراف سعد بن عبادہ بصحته، ج ۴، ص ۵۲۵،

﴿وسائل الوصول الی شماں الرسول، باب و اماریقبہ الشریف ﷺ﴾، ج ۱،

ص ۲۷۸،

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو غسل دیا جب میں نے نبی اکرم ﷺ کے جسم اقدس سے خارج ہونے والی کوئی ایسی چیز نہ پائی جو دیگر مردوں سے خارج ہوتی ہے تو میں پکار اٹھا کہ اے اللہ کے محبوب ﷺ آپ ﷺ ظاہری حیات اور بعد از وصال دونوں حالتوں میں پاکیزگی کا سرچشمہ ہیں، (دورانِ غسل نبی اکرم ﷺ کے جسم اقدس سے ایسی خوشبو کے حلے اٹھے جو خوشبو ہم نے پہلے کبھی نہ سو نگھی تھی۔

شرح:

نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کے عشق و محبت پر قربان جاؤں کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ کہ نبی اکرم ﷺ کی حیات اور وفات دونوں کو اچھا کہہ رہے ہیں جیسا کہ حضرت علی کافرمان گزرائی طرح حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا۔ ملا علی قاری حنفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”وَمِثْلُ قَوْلِ عَلَى طَبْتِ حَيَا وَمَيَّتَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ

جِينَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ

البزار عن ابن عمر بسنده صحيح“

حوالہ: (شرح شفاء، ملا على فاری، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلى جل و عز، الباب الثاني فی تکمیل الله تعالیٰ لہ المحسن خلقاً و خلقاً، فصل و اماننظامه جسمہ و طبیہ ج ۱، ص ۱۶۹)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد نبی اکرم ﷺ کا بوسہ لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، ”(کہ آپ ﷺ کی حیات اور وفات دونوں پا کیزہ ہیں)“ کی مثل کہا۔ اس کو امام بزار نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر 60:

دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

”فَاحْرِيْعِ الْمَسْكَ فِي الْبَيْتِ لِمَا فِي بَطْنِهِ“

حوالہ: (شرح شفاء، ملا على فاری، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلى جل و عز، الbab الثاني فی تکمیل الله تعالیٰ لہ المحسن خلقاً و خلقاً، فصل و اماننظامه جسمہ و طبیہ ج ۱، ص ۱۶۹)

کہ نبی اکرم ﷺ کے پیٹ مبارک میں جو ہوا تھی اس سے سارا گھر مشک جیسی خوشبو ہے مہکنے لگا۔

حدیث نمبر 61:

اور تیسرا روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں

”ابْتَشِرْ فِي الْمَدِينَةِ“

حوالہ: (شرح شفاء، ملا على فاری، القسم الاول فی تعظیم العلی الاعلى جل و عز، الbab الثاني فی تکمیل الله تعالیٰ لہ المحسن خلقاً و خلقاً، فصل و اماننظامه جسمہ و طبیہ ج ۱، ص ۱۶۹)

کہ جب وہ ہوا خارج ہوئی تو اس سے سارا شہر مہک اٹھا۔

حدیث نمبر 62:

حضرت سیدۃ النساء فاطمة الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور ﷺ کی قبر انور پر
حاضر ہوئیں اور

”وَ أَخَذَتُ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ فَوَضَعْتُهُ عَلَى عَيْنِهَا“

(سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمة الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے)

تحوڑی مٹی حضور ﷺ کی قبر انور سے لے کر اپنی آنکھوں سے لگائی اور
یہ شعر پڑھا۔

مَا ذَا عَلَى مَنْ شَمَ تُرْبَةَ أَحْمَدَ

أَنْ لَا يَشْمَمْ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

جو شخص حضور ﷺ کی قبر انور کی مٹی سوچنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم
یہ ہے کہ جب تک زمانہ ہے ایسی خوشبو نہ سوچنے گا (سبحان اللہ)۔

حوالہ: (عيون الأثر في فنون المغارى والشمائل والسير: محمد بن محمد بن احمد
بن سيد الناس البعمرى، متوفى ۷۳۴ھ، ذكر المصيبة الاولى وآخرين، ج ۲، ص ۴۰۹، دار القلم
بیروت،

☆ احمد بن حسین بن علی بن الخطیب، متوفی ۸۱۵ھ، وسیلة الاسلام بالنبي عليه السلام ::
فصل الثالث في وفاته ﷺ، ج ۱، ص ۱۱۹، دار الغرب الاسلامی بیروت لبنان،

☆ محمد بن عبد اللہ أبي بکر بن محمد ابن احمد بن مجاهد القیسی الدمشقی الشافعی، متوفی
۸۴۲ھ، سلوة الكثیب بوفاة الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم، رثاء سیدۃ فاطمه، ج ۱، ص ۱۶۲، دار
البحوث للدراسات الاسلامية الامارات،

شرح:

امام بصیری علیہ الرحمۃ اس کی شرح کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں۔

لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْبَّاً أَضَمَّ أَعْظَمَةَ

طُوبَى لِمُتَشَبِّقِ مِنْهُ وَمُلْتَثِمَ

ترجمہ: حضور ﷺ کی اس مٹی سے بہتر کوئی خوشبو دنیا میں نہیں جس مٹی
ہے اعضائے مبارک مس کیے ہوئے ہیں مبارک ہیں وہ ہستیاں
جنہوں نے اس خاک مبارک کو سونگھا اور چوما۔

دنیا کی کوئی خوشبو اس خاک پاک کی خوشبو سے بہتر نہیں ہو سکتی جس خاک پاک
پر جسد اقدس آرام فربار ہا ہے۔ اور وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مبارک خاک کو
سونگھا اور اس کو چوما اور بوسہ لیا، یہ بات مسلم ہے کہ کہ قبر معطر محمد رسول اللہ ﷺ تمام
روئے زمین بلکہ کعبہ مغطیہ اور عرشِ اعظم سے بھی افضل ہے اور کیوں نہ ہوا حدیث
میں آتا ہے کہ ہر ذی روح کی پیدائش اس خاک سے ہے جس میں وہ دفن ہوتا ہے تو وہ
خاک مبارک جس پر حضور ﷺ جلوہ فرمایا ہیں حضور ﷺ کے جسد اقدس کا جزو ہوئی
اور حضور ﷺ کا ہی صدقہ یہ تمام عالم، لوح قلم، عرش و کرسی ہیں تو نتیجہ صاف ظاہر ہوا
کہ حضور ﷺ تمام عالمین سے افضل ہیں۔
اسی بناء پر علماء کرام فرماتے ہیں۔

”ان تربة قبره ﷺ افضل من البيت و المسجد الاقصى“

والعرش والكرسي“

حوالہ: (شفاء شریف، فصل اماما شرف نسبہ و کرم بلده، ج ۱، ص ۲۰۴)

☆ يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي المتنوفي: ۸۹۳ هـ: بهجة المحافظ

وبغية الأمائل فى تلخيص المعجزات والسير والسمائل، مطلب فى الكلام على ما ورد فى فضل المسکة،
ج ۱، ص ۱۸، دار صادر بيروت)

کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کی خاک پاک بیت اللہ، مسجد القصی اور عرش و کرسی
سے افضل ہے۔

حاضری روضہ اقدس:

نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت ایک مبارک اور دین و دنیا کی
بھلائیوں کو سینئے والا کام ہے، حضور ﷺ نے اپنی قبر کی زیارت کو اپنی زیارت کہا
فرماتے ہیں۔

”مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي“

حوالہ: (محمد بن عمر بن مبارک الحميری الحضرمی الشافعی المتوفی ۹۳ھ: حدائق الأنوار
ومطالع الأسرار فی سیرة النبي المختار، باب الروضة الشریفة، ج ۱، ص ۴۹۲، دار المنهاج جدة)

جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔

فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی یہ نہیں فرمایا
کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی بلکہ اپنی قبر مبارک کی زیارت کو اپنی
زیارت کہا، اور نبی اکرم ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت بعض علماء کے نزدیک
واجب ہے اور بعض کے نزدیک ایسی سنت ہے جس پر اجماع قائم ہے۔
اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ۔

حا جیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھو چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو
رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صحیح دل آراء دیکھو
آب زم ذم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آؤ جود شہ کوڑ کا بھی دریا دیکھو

زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور سے بر سنا دیکھو
واں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا یاں سیہ کاروں کا دامن پہ مچنا دیکھو
غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کار و ضہدیکھو

(اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ)

یہ تو نبی اکرم ﷺ کی قبر کی بات تھی اب ذرا آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی شان سنتے جائیں۔

حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق رسول ﷺ میں بے پناہ جاں
شانیوں اور فدا کاریوں کی وجہ سے یہ شان ملی کہ ان کی قبر انور سے اس قدر تیز کستوری
کی مہک آتی کہ سارا میدان ہر وقت مہکتا رہتا۔

چنانچہ منقول ہے کہ (جب حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیں
ہوئی تو) ایک مدت کے بعد حضور اقدس ﷺ کا صحابہ کرام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک سے گزر ہوا تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض
کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس صحراء میں کستوری کی اس قدر تیز خوشبو کہاں سے آرہی
ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس میدان میں ابو معاویہ (حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی قبر موجود ہوتے ہوئے تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ
یہاں کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے۔

حوالہ: کرامات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمۃ، شیبہ برادرز، لاہور،

تھے مہکتے ان کی سواری کے جانور بھی

حدیث نمبر 63:

”حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنْسَا بْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضُ سَبِّخَةِ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِي وَاللَّهُ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطِيبُ زِيَّهِ مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرَبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنُّعَالِ“

حوالہ جات: (محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ۔ امام۔ صحیح بخاری (لاہور مکتبہ رحمانیہ) کتاب الصلح، باب ما جا، فی اصلاح بین الناس، ج ۱ ص ۴۷۲،

☆ مسند ابی یعلی الموصلى، ج ۷، ص ۱۲۵

☆ مسنحرج ابی عوانة، باب بیان عفو البñی ﷺ، ج ۴، ص ۳۴۵

☆ السنن الکبری للبیهقی، باب ما جا، فی قتال اهل البñی، ج ۸، ص ۲۹۷)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے غرض کیا گیا کہ آپ عبد اللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں تو اچھا ہو، حضور ﷺ عبد اللہ بن ابی (مناق) کی طرف ایک دراز گوش پر سوار ہو کر نکلے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے، وہ شور والی زمین تھی

آپ ﷺ جب اس منافق کے پاس پہنچے تو اس نے کہا میرے پاس سے ہٹو اللہ کی قسم تمہارے گدھے کی بو مجھے تکلیف دے رہی ہے (پھر حضور ﷺ کے صحابہ میں سے) ایک انصاری آدمی نے کہا اللہ کی قسم حضور ﷺ کے گدھے (مبارک) کی خوشبو تیری خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہے، پھر عبد اللہ بن ابی کی قوم کا ایک آدمی غضب میں آگیا اور اس نے (آپ ﷺ کے) صحابی کو برا بھلا کہا پھر ہر دو طرف کے اصحاب غضب میں آگئے اور ایک دوسرے کو درخت کی شاخوں، ہاتھوں اور جوتوں سے مارنے لگے۔

شرح:

یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نظریہ ہے کہ حضور ﷺ کی سواری کا جانور بھی اتنا مہکتا ہے کہ لوگوں کی خوشبوئیں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں اور یہ یقیناً اس جانور کے ساتھ حضور ﷺ کے جسم کے مس ہونے کی وجہ تھی کہ وہ بھی مہک رہا تھا اور نہ قارئین جانوروں کی بو سے خوب آشنا ہیں لیکن جو جانور بھی نبی اکرم ﷺ کی سواری بنتا تو آپ ﷺ جتنی دیر تک اس پر سوار رہتے وہ نہ بول کرتا اور نہ ہی گوبر۔

خاتمه:

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یکم ذوالحجہ بمقابلہ ۱۶ ستمبر ۲۰۱۵ء کو ہم نے اپنی اس کتاب (تسکین القلوب بعطر المحبوب) "کیا مہکتے ہیں مہکنے والے" کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ کے نہایت فضل و کرم سے ہم نے اس میں حضور ﷺ کی ظاہری

زندگی کی نسبت سے تریسٹ احادیث کو نقل کیا اور اپنی علمی طاقت کے مطابق ان کی تشریح بھی کی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی اور اپنے محبوب ﷺ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے مبری، میرے والدین، میرے اساتذہ، دوست احباب اور جمیع مومنین و قارئین کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔
کرشافع محشر کی سنگت میں جنت الفردوس کی کلیوں پھولوں اور پھلوں کی مہک نصیب فرمائے۔

آمین بجاه النبی الکریم الامین

ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی

فاضل جامعہ قادریہ عالیہ نیک آباد مراثیاں شریف

گجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خوشبو کے متعلق

فقہی مسائل

مرتب

ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی

فاضل جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات

خوشبو کے متعلق فقہی مسائل

اس حلقہ پر ہم خوشبو کے متعلق کچھ فقہی مسائل پیش کر رہے ہیں کہ خوشبو کو کہاں استعمال کرنا سنت کہاں مستحب کہاں جائز اور کہاں ناجائز ہے اور کون سی خوشبو گانی جائز ہے اور کونسی ناجائز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احسن طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمين۔

خوشبو سے محبت نبوی ﷺ:

(1) "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِلُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ"

حوالہ: (شمائل ترمذی "باب ماجاه فی تعطر رسول الله ﷺ" ص ۱۷۹، المکتبة التجاریة، مکہ مكرمة،)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر لا تیر، جبڑوں کے لیے انکار نہیں کرنا چاہیے، تکریہ، (خوشبو والا) تیل، اور دودھ،۔

شرح:

حضرت حکیم الامم مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میزبان اپنے مہماں کو آرام کے لیے تکریہ پیش کرے تو رسمیں

ملنے کے لیے تیل اور پینے کے لیے دودھ یا لسی تو مہمان اسے ردنہ کرے بلکہ بخوشی قبول کرے عرب شریف میں تیل بھی مہمان کی خاطر کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔

(2) "عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ وَقَالَ أَنْسٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ"

حوالہ: (شماںل ترمذی "باب ماجا، فی تعطر رسول اللہ ﷺ" ص ۱۷۸، المکتبۃ التجاریۃ، مکہ مکرمة،)

حضرت شمامہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خوشبو کے تحفے سے انکار نہ فرماتے اور فرماتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ بھی خوشبو کے تحفے سے انکار نہ فرماتے تھے۔

(3) "عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهَدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرِّيحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ"

تخریج: (شماںل ترمذی "باب ماجا، فی تعطر رسول اللہ ﷺ" ص ۱۸۱، المکتبۃ التجاریۃ، مکہ مکرمة،)

حضرت ابو عثمان نحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ریحان (خوشبو کا نام) دی جائے تو اس سے انکار نہ کرئے کیونکہ یہ جنت سے آئی ہے۔

شرح:

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نصیبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ حدیث اپنے ظاہر پر ہے بہت سی چیزیں دنیا میں جنت سے آئی ہیں جن میں

سے ایک خوبی بھی ہے اسے رد کرنا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت کی ناقدرتی ہے مراد وہی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ خوبی کا ہدیہ واپس نہ کرو یہ مطلب نہیں کہ خوبی کا سودا رونہ کرو ضرور خرید لو، جیسا کہ عام عطر فروش کہتے ہیں۔

حوالہ: (شرح شماںل ترمذی، علامہ ناصر الدین ناصر العدنی، ص ۳۹۰)

نبی اکرم ﷺ کا خوبی کو استعمال کرنا:

(۱) "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَنْتُ أَطْبَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْبَبِ مَا نَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيَضَ الطَّيْبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيَّتِهِ"

حوالہ: (بخاری شریف، کتاب اللباس، باب الطیب فی الرأس واللحمة، ج ۷، ص ۱۶۴)

حدیث نمبر: (۵۹۲۳)

ام مؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ میں رسول اللہ ﷺ کو نہایت عمدہ خوبی لگاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک نبی اکرم ﷺ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں پاتی،۔

شرح:

طیب کے دو معنے ہو سکتے ہیں کہ خوبی تیار کرتی تھے یا خوبی لگاتی تھی حضور ﷺ کو خوبی بہت ہی پسند تھی، اس لیے ازدواج المطہرات خصوصاً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور انور کے لیے خوبی تیار کرتی تھیں حتیٰ کہ احرام کھولتے وقت بھی خوبی تیار کی گئی تھی، اور جب حضور ﷺ کو سر مبارک اور داڑھی مبارک میں خوبی لگاتی تو اس قد زیادہ ہوتی کہ بالوں میں اس کی چمک دیکھی جاتی تھی یہ چمک خوبی کا رنگ نہ تھا، چمک توانی کی بھی محسوس ہو جاتی ہے لہذا یہ حدیث

اس کے خلاف نہیں کہ مردوں کی خوبی بغیر رنگ والی ہونی چاہیے، وہاں رنگ سے مراد زینت والا رنگ ہے اور اسی کی ممانعت ہے۔

حوالہ: (مفتي احمد ديار خان نعيمى عليه الرحمه، مراة المناجح شرح مشکوۃ المصایبح، باب الترجل، الفصل الاول، ج ۶، ص ۱۲۸، تحت حديث نمبر: ۰۴۲۳۷)

(2) ”عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجَمَرَ اسْتَجَمَرَ بِالْأَلْوَةِ غَيْرَ مُطَرَّأً وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلْوَةِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجِمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

حوالہ: (مسلم شریف "کتاب الالفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك و انه اطيب الطيب... الخ" ج ۴، س ۱۷۶۶، حدیث نمبر: ۰۲۲۵۴)

حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی خالص لوبان (ایک خوبی کا نام جس کو اردو میں "اگر" کہتے ہیں) کی دھونی لیتے یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش نہیں کرتے تھے اور کبھی لوبان کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے اور کہتے کہ رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔

شرح:

استجمارہ وہ خوبی لینا جو جمرہ یعنی آگ کے انگاروں پر رکھ کر حاصل کی جائے یعنی نجور یا دھونی اس لی انگیٹھی کو مجرہ کہتے ہیں یہ مجرہ سے ہے نہ کہ جمار سے، جمار سے جو استجمار آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھیلے سے استنجا کرنا، اسی سے جمار ہے جن کی رمی حج میں کی جاتی ہے۔

لوبان مشہور خوبی ہے جو پہلے بہت مروج تھی اب اگر قبیلوں کی وجہ سے اس کا رواج کم ہو گیا ہے۔

(3) ”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَبَّبُ مِنْهَا“

حوالہ: (سنن ابی داؤد) کتاب النَّرْجُل، باب فی استحباب الطَّيْب، ج ۴، ص ۷۶، حدیث
نمبر: ۴۱۶۲

لما شمائل ترمذی "باب ماجا، فی تعطر رسول الله ﷺ"، ص ۱۳، دار الاحباء، التراث،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
الله ﷺ کے پاس ایک شیشی تھی جس سے آپ ﷺ خوبصورت استعمال
فرماتے تھے۔

مردوں اور عورتوں کی خوبصورتی میں فرق:

یاد رہے کہ مرد کے لیے بغیر رنگ کے خوبصورت استعمال جائز ہے رنگ والی نہیں اور
عورت رنگ والی خوبصورت استعمال کر سکتی ہے اسی رنگ اور غیر رنگ پر ہی آگے احکام
مرتب ہوں گے، "ابوالاحمد غفرلہ"

(1) ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ“

حوالہ: (شمائل ترمذی) "باب ماجا، فی تعطر رسول الله ﷺ"، ص ۱۷۹، المکتبة التجاریة،
مکہ مکرمة،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا: مردوں کی خوبصورتی ہے جس کی مہک ظاہر ہو رنگت چھپی
رہے اور عورتوں کی خوبصورتی ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور مہک چھپی
ہوئی۔

شرح:

جیسے گلب، مشک، عنبر، کافور، وغیرہ مرد کے لیے یہ خوشبو میں بہتر ہیں کہ ان میں رنگ نہیں مہک ہے خیال رہے کہ عورت مہک والی چیز استعمال کر کے باہر نہ جائے، اپنے خاوند کے پاس خوشبو مل سکتی ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں۔ جیسا کہ دوسری روایات میں ہے جو عورت خوشبو مل کر باہر نکلے وہ ایسی ایسی ہے، دوسری روایت میں ہے کہ عورت بخور (خوشبو) لگا کر ہماری مسجد میں عشاء کے لیے نہ آئے اس سے معلوم ہوا ہے کہ عورت مہندی لگائے ہوئے باہر نہ پھرے کہ مہندی میں مہک ہے اور عورت کو مہک لگا کر نکلنا منوع ہے۔

حوالہ: (مفٹی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ، مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح، ج ۶، ص ۱۲۰-۱۲۱، تحت حدیث نمبر: ۱۴۲۴۵)

(2) ”عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرْأَةِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قَلَّتْ: لَا قَالَ: فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَبْعُدْ“

حوالہ: (نسائی شریف، کتاب الزینۃ، باب التشریع فی عفر و الحلو، جزء ۸، ص ۱۵۲، حدیث نمبر: ۱۵۱۲۱)

حضرت یعلی بن مره رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خلوق خوشبو (جو رنگ دیتی ہے) لگا کر نبی اکرم ﷺ کے پاس سے گزرے، تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو فرمایا کیا تمہارے پاس بیوی ہے عرض کی نہیں فرمایا تو اسے دھو دو پھر دھو دو پھر آئندہ ایسا نہ کرنا۔

مشکوۃ المصابیح میں بھی یہ حدیث چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ موجود ہے حوالہ یہ ہے۔

حوالہ: مشکوۃ المصابیح، کتاب الباس، باب الترجل، الفصل الثاني، حدیث نمبر: ۱۴۲۴۲

شرح:

خلوق خ اور لام کے پیش کے ساتھ عرب شریف کی مشہور خوشبو ہے، جو ز عفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے رنگت بھی دیتی ہے، اور صحابی سے بیوی کا اس لیے پوچھا کہ تمہارے پاس بیوی ہو تو تم اس رنگت میں معدود ہو کہ اس نے رنگت والی خوشبو استعمال کی ہوا اور اس کے کپڑوں سے تمہارے جسم یا کپڑوں کو لگ گئی ہو۔ اس صورت میں تم معدود ہوا اور اس خوشبو کے لگ جانے سے تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تم بار دھونے کا اس لیے فرمایا کہ یا تو اس خوشبو کی رنگت اتنی تیز اور پختہ ہو گی جو تم بار دھونے بغیر کپڑے سے چھوٹ نہ سکتی ہو، اس لیے تم بار دھونے کا حکم دیا مبالغہ کے طور پر فرمایا کہ خوب اچھی طرح دھو دتا کہ با مشقت نہیں یاد رہے اور پھر کبھی استعمال نہ کریں۔

حوالہ: (مفہومی احمد بیار حان نعیمی علیہ الرحمۃ، مرآۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصایب، باب الترحد، الفصل الثاني، ج ۶، ص ۱۲۹، تحت حدیث نمبر: ۱۰۴۲۴۲)

(3) ”عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِيْهِ قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْوَقٍ“

حوالہ: (سنن ابی داؤد، کتاب الترجل، باب فی الحلوق للرجال، جزء ۴، ص ۸۰، حدیث نمبر: ۴۱۷۸)

ہامشکوۃ المصایب، کتاب الباس، باب الترجل، الفصل الثاني، حدیث نمبر: ۴۲۴۳)

حضرت ربع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کے جسم میں کچھ خلوق ہو۔

شرح:

”رجل“ فرماد کہ عورت کا یہ حکم نہیں اسے خلوق استعمال کرنا جائز ہے اور ”شئی“ فرماد کہ خلوق تھوری ہو یا زیادہ بہر حال مرد کے لیے منوع ہے، اس کے ساتھ نہ مکروہ ہے لہذا مرد اگر یشمی لباس یا چاندی، سونے کا زیور پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز سخت مکروہ واجب الاعداد ہو گی۔

حوالہ: (مفہمی احمد بخاری خان نعیمی علیہ الرحمۃ، مرأۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصایبیح، باب الرجل، الفصل الثانی، ج ۶، ص ۱۲۰، تحت حدیث نمبر: ۰۴۲۴۳)

بطور علاج مرد کو رنگ والی خوشبودار دوائے استعمال کرنا کیسا؟

”عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاهِي فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيَّ وَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْبِلْ هَذَا عَنْكَ.“

حوالہ: (سنن ابی داؤد، کتاب الرجل، باب فی الحلق للرجال، جزء ۸، ص ۸۰، حدیث نمبر: ۰۴۱۷۶)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں سفر سے اپنے گھروالوں کے پاس آیا، میرے ہاتھ پھٹ گے تھے انہوں نے زعفران والی خلوق مجھے لگا دی پھر میں صحیح کے وقت نبی اکرم ﷺ کے خدمت میں گیا میں نے آپ ﷺ پر سلام عرض کیا تو مجھے جواب نہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور اسے اپنے جسم سے دھوؤ۔

شرح:

خلوق بغیر زعفران کے بھی ہوتی ہے اور زعفران والی بھی اور یہ زخم کا علاج ہے جیسے آج کل ویسلین کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور یہ زخموں وغیرہ کا علاج بھی ہوتی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زعفرانی (یعنی رنگ والی) خلوق لگائی گئی تھی، غالباً اس پھنسن کا علاج خلوق کے سوا اور بھی ہو گا جیسے موم، تیل وغیرہ یا اس وجہ سے ناراضگی ہے کہ تم اس کو لگا کر باہر کیوں آئے اور یا اس وجہ سے کہ تم نے خلوق پر پانی بہا کر اس کا رنگ کیوں نہ زائل کر دیا اور نہ مجوری اور معدودی میں معافی ہوتی ہے۔

حوالہ: (معتی احمدیار حار نعیمی علیہ الرحمۃ، مرآۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح، باب الترجیح، الفصل الثاني، ج ٦، ص ١٣٠، تحت حدیث نمبر: ٤٢٤٤)

ضروری نوٹ:

معلوم ہوا کہ جب مجبوری ہو تو ایسی چیز جس میں رنگ اور خوشبو ہو تو مرد اس کے ساتھ علاج کر سکتا ہے، اور مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہ ملے جس سے علاج کرے۔

جمعہ کے دن نہانا اور خوشبو لگانا:

(١) ”عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ وَيَدْهُنُ مِنْ ذُهْنِهِ أَوْ يَمْسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصْلِي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى“

حوالہ: (بخاری شریف، کتاب الجمعة، باب الدعن للجمعة، ج ١، حدیث نمبر: ٨٨٣)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جداً نہ کرے پھر فرض نماز پڑھے پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔

(2) ﴿عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى﴾

حوالہ: (سن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب ما حاد، فی ریبة یوم الجمعة، حدیث ۱۰۹۷)

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور اچھی طرح طہارت کی اور اپنے بہترین کپڑے پہنے اور اپنے گھر کی وہ خوشبو لگائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی پھر جمعہ کی نماز کی طرف آیا اور نہ لغو کلام کیا اور نہ ہی دو آدمیوں کے دو میان جداً کی تو اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔

(3) ﴿عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَلَيَمْسَأْ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ

حوالہ: (جامع ترمذی، ابواب الجمعة، باب ماجاه فی السواک و الطیب يوم الجمعة، حدیث: ۵۲۸)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کریں اور ان میں سے ہر ایک اپنے گھر میں جو خوشبو موجود ہو لوگائے اور اگر خوشبو نہ ملے تو پانی ہی اُس کے لیے خوشبو ہے۔ (یعنی بدن سے پانی کے ساتھ بدبوخت ہو جائے گی یہی اس کے لیے کافی ہے)

(4) ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلَيَمْسَأْ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَابِكِ“

حوالہ: (سن ابن ماجہ، کتاب افامة الصلوات، باب ماجاه فی زیمة يوم الجمعة، حدیث: ۱۰۹۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کیا ہے پس جو جمعہ کی نماز کو آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور اگر اُس کے پاس خوشبو ہو تو لوگائے اور تم پر مسوک ضروری ہے۔

مسکن:

جمعہ کے دن خوشبو لوگانا امام مالک علیہ الرحمۃ کے نزدیک مستحب ہے اور جمہور کے نزدیک سنت ہے۔

حوالہ: (الفقه الاسلامی و ادله، ڈاکتروہبة الر حبیلی، سنن الجمعة و مکروهاتها، مکتبۃ الاسد، دمشق دار الفکر، ج ۲، ص ۲۷۱)

حالتِ روزہ میں خوشبو کا استعمال:

مسئلہ: اگر بتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی اس نے منه قریب کر کے دھوئیں کوناک سے کھینچا رسوہ جاتا رہا۔

حوالہ: (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۹۸۲، مکتبۃ العدیۃ دعوت اسلامی)

احناف کے نزدیک حالتِ روزہ میں خوشبو لگانا اور داڑھی وغیرہ کو خوشبو دار تیل لگانا اور سرمہ لگانا جائز ہے۔

لیکن مالکیہ کے نزدیک دن کو (حالتِ روزہ میں) خوشبو لگانا یا سونگھنا مکروہ ہے۔

حوالہ: (الفقه الاسلامی و ادله، ذاکر و رہبة الر حیلی، الباب الثالث، الصیام والاعتكاف، المفصل الاول، الصیام، مکرہات الصیام، مکتبۃ الاسد، دمشق دار الفکر، ج ۲، ص ۵۶۱)

عید کے دن خوشبو لگانا:

عید کے دن خوشبو لگانا مستحب ہے۔

حوالہ: (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۷۸۰، مکتبۃ العدیۃ دعوت اسلامی)

حج و عمرہ کرنے والے کے لیے بحالتِ احرام خوشبو لگانا کیسا؟:

نوت: مندرجہ ذیل مسائل میں جہاں دم کہا جائے گا اس سے مراد ایک بکری یا بھیڑ ہوگی اور بدنه سے مراد اونٹ یا گائے ہوگی، یہ سب جانور انہیں شرائط کے ہونگے جو شرائط قربانی میں ہیں اور صدقہ سے مراد نصف صاع گیہوں (گندم) یا ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور اور پھر ان کی قیمت ہے۔

حوالہ: (قانونِ شریعت، حج کا بیان، ص ۲۴۲)

مسئلہ:

خوشبو اگر بہت سی لگائی جس دیکھ کر لوگ بہت بتائیں اگرچہ عضو کے تھوڑے سے حصہ پر یا کسی بڑے عضو جیسے سر، منه، ران، پنڈلی، کو پورا سان دیا اگرچہ خوشبو

تحوڑی تھی تو ان دونوں صورتوں میں دم ہے، اور اگر تھوڑی سی خوشبو عضو کے تھوڑے سے حصے کو لگائی تو صدقہ ہے۔

حوالہ: (الفتاویٰ انہدیہ، کتاب الحساس، انساب الشام فی حسابات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۰-۲۴۱، حوالہ بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۳، مکتبۃ انہدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

کپڑے یا بچھونے پر خوشبو ملی تو خود خوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی زیادہ ہے تو دم اور کم ہے تو صدقہ۔

حوالہ: (الفتاویٰ انہدیہ، کتاب الحساس، انساب الشام فی حسابات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۱، حوالہ بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۳، مکتبۃ انہدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

خوشبو سو نگھی پھل ہو یا پھول جیسے لیمو، نارنگی، گلاب، چمیلی، بیلے، بُوہی وغیرہ کے پھول تو کچھ کفارہ نہیں۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب الحج، باب الحسابات، ج ۲، ص ۶۵۳)

مسئلہ:

احرام سے پہلے بدن پر خوشبو لگائی تھی احرام کے بعد پھیل کر اور اعضاء کو لگ گئی تو کفارہ نہیں۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب الحج، باب الحسابات، ج ۲، ص ۶۵۳)

مسئلہ:

محرم نے دوسرے کے بدن پر خوشبو لگائی مگر اس طرح کہ اس کے ہاتھ وغیرہ کسی عضو میں خوشبو نہ لگی یا اس کو سلا ہوا کپڑا پہنا یا تو کچھ کفارہ نہیں مگر جب کہ محروم کو خوشبو لگائی یا سلا ہوا کپڑا پہنا یا تو گناہ گار ہوا اور جس کو لگائی یا پہنا یا اس پر کفارہ واجب ہے۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب نوح، باب انحرافات، ج ۲، ص ۶۵۳")

مسئلہ:

تھوڑی سے خوشبو بدن کے متفرق حصوں میں لگائی اگر جمع کرنے سے پورے بڑے عضو کی مقدار کو پہنچ جائے تو دم ہے ورنہ صدقہ اور زیادہ خوشبو متفرق جگہ لگائی تو بہر حال دم ہے۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب نوح، باب انحرافات، ج ۲، ص ۶۵۴")

مسئلہ:

ایک جلسہ میں کتنے ہی اعضاء پر خوشبو لگائے بلکہ سارے بدن پر بھی لگائے تو ایک ہی دم ہے اور ایک کفارہ واجب اور کئی جلوں میں لگائی تو ہر بار کے لیے الگ الگ کفارہ ہے خواہ پہلی بار کا کفارہ دے کر دوسرا بار لگائی یا ابھی کسی کا کفارہ نہ دیا ہو۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب نوح، باب انحرافات، ج ۲، ص ۶۵۴، حوالہ بہار شریعت، ج ۱،

ص ۱۱۶، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

کسی شی میں خوشبو لگی تھی اسے چھوا، اگر اس سے خوشبو چھوٹ کر بڑے عضو کامل کی قدر بدن کو لگی تو دم دے اور کم ہو تو صدقہ اور کچھ نہیں تو کچھ نہیں، مثلًا سنگ اسود شریف پر خوشبو ملی جاتی ہے اگر بحالت احرام بوسہ لیتے میں بہت سی لگی تو دم اور تھوڑی سی تو صدقہ۔

حوالہ: (الفتاوی الہندیہ، کتاب المسائل، الباب النام فی حبابات، المصر الاول، ج ۱، ص ۶۴۱)

حوالہ بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

خوشبو دار سرمہ ایک بار یادو بار لگایا تو صدقہ دے، اس سے زیادہ میں دم اور جس

سرمهہ میں خوشبو نہ ہو اس کے استعمال میں حرج نہیں، جب کہ بضرورت استعمال اور بلا ضرورت مکروہ۔

حوالہ: (الغتاوى أنهدیہ، کتاب الشناسخ، الباب الشامن فی الجنایات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۱،
بحوارہ بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۴، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

اگر خالص خوشبو جیسے مشک، زعفران، لوگ، الاچھی، دارچینی، اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تودم ہے ورنہ صدقہ۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۲، ص ۲۵۴، بحوارہ بھار شریعت، ج ۱،
ص ۱۱۶۴، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

کھانے میں پکتے وقت خوشبو پڑی یا فنا ہو گئی تو کچھ نہیں، ورنہ اگر خوشبو کے اجزاء زیادہ ہوں تو وہ خالص خوشبو کے حکم میں ہے اور کھانا زیادہ ہو تو کفارہ کچھ نہیں مگر خوشبو آتی ہو تو مکروہ ہے۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۲، ص ۲۵۶،
الغتاوى أنهدیہ، کتاب الشناسخ، الباب الشامن فی الجنایات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۱، بحوارہ بھار
شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۴، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

پینے کی چیز میں خوشبو ملائی گئی اگر خوشبو غالب ہے یا تین بار یا زیادہ پیا تو دم ہے ورنہ صدقہ۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۲، ص ۲۵۴، بحوارہ بھار شریعت، ج ۱،
ص ۱۱۶۵، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

تمبا کو کھانے والے اس کا خیال رکھیں کہ کہ احرام میں خوشبو دار تمبا کونہ کھائیں کہ پیسوں میں تو ویسے ہی کچی خوشبو ملائی جاتی ہے اور قوام میں بھی اکثر پکانے کے بعد مشک وغیرہ ملا تے ہیں۔

حوالہ: (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۵، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

خیرہ تمہے کونہ پینا بہتر ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے مگر پیا تو کفارہ نہیں۔

حوالہ: (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۵، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

اگر ایسی جگہ گیا جہاں خوشبو سُلگ رہی ہے اور اس کے کپڑے بھی بس گئے تو کچھ نہیں، اور سُلگ کر اس نے خود بساے تو قلیل میں صدقہ اور کثیر میں دم اور نہ بے تو کچھ نہیں اور اگر احرام سے پہلے بسا یا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے مگر کفارہ نہیں۔

حوالہ: (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب المسائل، الباب الثامن فی جنایات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۱)

بحوالہ بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۵، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

سر پر مہندی کا پتلا خضاب کیا کہ بال نہ چھپے تو ایک دم اور گاڑھی تھوپی کہ بال چھپ گئے اور چار پھر گزرے تو مرد پر دو دم اور چار پھر سے کم میں ایک دم اور صدقہ اور عورت پر بہر حال ایک دم، چوتھائی سر چھپنے کا بھی یہی حکم ہے۔

حوالہ: (الجوواهر النیرہ "کتاب الحج، باب الجنایات، ص ۲۱۷، بحوالہ بہار شریعت، ج ۱،

ص ۱۱۶۵، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

دارہی میں مہندی لگائی جب بھی دم واجب ہے، پوری ہتھیلی یا تکوے میں لگائی تو دم نہ ہے، مرد ہو یا عورت، اور چاروں ہاتھ پاؤں میں ایک ہی جلنے میں لگائی جب بھی ایک ہی دم ہے، ورنہ ہر جلسہ پر ایک دم اور ہاتھ پاؤں کے کسی حصہ میں لگائی تو صدقہ۔

حوالہ: (رد المحتار "كتاب النجع،باب الحسابات، ج ۲، ص ۶۵، بحوله بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۵، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

خطمی سے سریا دارہی دھوئی تو دم ہے۔

حوالہ: (الفتاوی انہدیہ، کتاب المعاشر، انساب الشام فی حسابات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۱، بحوله بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۶، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

عطر فروش کی دکان پر خوبیوں نگھنے کے لیے بیٹھا تو کراہت ہے ورنہ حرج نہیں۔

تخریج: (الفتاوی انہدیہ، کتاب المعاشر، انساب الشام فی حسابات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۱، بحوله بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۶، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

چادر یا تہند کے کنارے میں مشک، غیر، زعفران باندھا اگر زیادہ ہے اور چار پھر گزر کے تو دم ہے اور کم ہے تو صدقہ۔

حوالہ: (رد المحتار "كتاب النجع،باب الحسابات، ج ۲، ص ۶۵۴، بحوله بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۵، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

خوبی استعمال کرنے میں قصد یا بلا قصد ہونا، یاد کر کے یا بھولے سے ہونا مجبوراً یا

خوشی ہونا مرد و عورت سب کے لیے یکساں حکم ہے۔

حوالہ: (الفتاویٰ الحنفیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی حسایات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۱،
بحوالہ بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶، مکتبۃ المدبیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

خوبیوں کا ناجب جرم قرار پایا تو بدن یا کپڑے سے دور کرنا واجب ہے اور کفارہ
دینے کے بعد زائل نہ کیا تو پھر دم وغیرہ واجب ہوگا۔

حوالہ: (الفتاویٰ الحنفیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی حسایات، الفصل الاول، ج ۱،
ص ۲۴۲-۲۴۳، بحوالہ بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶، مکتبۃ المدبیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

خوبیوں کا نے سے بہر حال کفارہ واجب ہے اگرچہ فوراً زائل کر دی ہو اور اگر کوئی
غیر محرم ملے تو اس سے دھلوائے اور اگر صرف پانی بہانے سے دھل جائے تو یوں ہیں
کرے۔

حوالہ: (باب المناسک "و" المسلط المتنقسط" کتاب الحج، باب الحسایات، مصل لا بشرط
بغاء الطیب، ص ۳۱۹، بحوالہ بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶، مکتبۃ المدبیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

روغن چمیلی وغیرہ خوبیوں کا تیل لگانے کا وہی حکم ہے جو خوبیوں استعمال کرنے
میں تھا۔

حوالہ: (الفتاویٰ الحنفیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی حسایات، الفصل الاول، ج ۱، ص ۲۴۰،
بحوالہ بھار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶، مکتبۃ المدبیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

تیل اور زیتون کا تیل خوبیوں کے حکم میں ہے اگرچہ ان میں خوبیوں نہ ہو البتہ ان

کے کھانے اور ناک میں چڑھانے اور زخم پر لگانے اور کان میں ٹپکانے سے صدقہ واجب نہیں۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۲، ص ۶۵۵، بحوالہ بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

مشک، عنبر، زعفران وغیرہ جو خود ہی خوشبو ہے ان کے استعمال سے مطلقاً کفارہ لازم ہے اگر چہ دو اس استعمال کیا ہو یہ اس صورت میں ہے جب کہ ان کو خالص استعمال کریں اور اگر دوسری چیز جو خوشبو دار نہ ہو اس میں ملا کر استعمال کیا تو غالب کا اعتبار ہے اور دوسری چیز میں ملا کر پکالیا تو کچھ حرج نہیں۔

حوالہ: (رد المحتار "کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۲، ص ۶۵۶، بحوالہ بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۷، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

زخم کا علاج ایسی دوائے کیا جس میں خوشبو ہے پھر دوسرے زخم ہوا اس کا علاج پہلے کے ساتھ کیا تو جب تک پہلا اچھا نہ ہو اس دوسرے کی وجہ سے کفارہ نہیں اور پہلے کے اچھے ہونے کے بعد دوسرے میں وہ خوشبو دار دوالگائی تو دو کفارے واجب ہیں۔

حوالہ: (العناؤی النہدیہ، کتاب الماسک، الباب الثامن فی جنایات، الفصل الازل، ج ۱، ص ۲۴۱، بحوالہ بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶۷، مکتبۃ المدیہ دعوت اسلامی)

مسئلہ:

گسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا چار پھر پہنا تو دم دے اور اس نے کم تو صدقہ اگر چہ فوراً آتا رہا۔

حوالہ: (باب المنسک "و" المسیک المتفقسط" کتاب الحج، باب الجنایات، فصل فی تطہی

الثوب اذا كان الطيب شبراً في شهر، ص ۳۲۰، بحواله بهار شريعت، ج ۱، ص ۱۱۶۷، مكتبة المدينة
دعوت اسلامی)

میت کے متعلق خوشبو کے احکام: مسئلہ:

(غسل کے بعد) میت کی داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو میں اور مواضع بجود یعنی
ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم، پرکافور (خوشبو کا نام) لگائیں۔

حوالہ: (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث،
ج ۱، ص ۱۶۱، بحوالہ بهار شريعت، ج ۱، ص ۸۲۱، مکتبة المدينة دعوت اسلامی)

مسئلہ:

کسم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو منوع ہے اور عورت کے لیے جائز
یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جاسکتا ہے اور جوزندگی میں ناجائز،
اس کا کفن بھی ناجائز،

حوالہ: (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث،
ج ۱، ص ۱۶۱، بحوالہ بهار شريعت، ج ۱، ص ۸۱۹، مکتبة المدينة دعوت اسلامی)

مسئلہ:

مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہو عورت
کے لیے جائز ہے جس نے احرام باندھا اس کے بدن پر بھی خوشبو لگا میں اور اس کا
منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔

حوالہ: (الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث،
ج ۱، ص ۱۶۱، بحوالہ بهار شريعت، ج ۱، ص ۸۲۱، مکتبة المدينة دعوت اسلامی)

مسئلہ:

احناف اور مالکیہ کے نزدیک میت چاہے محروم ہو یا غیر محروم دونوں کو خوشبو لگائی

جائے گی لیکن شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اگر مرنے والا محرم (احرام باندھنے والا) ہو تو اس کو خوب نہیں لگائی جائے گی۔

حوالہ: (الفقه الاسلامی و ادله، ڈاکٹر وہبہ الز حلیلی، مکتبۃ الاسد، دمشق دار الفکر، ج ۲،

ص ۴۱۲)

مسئلہ:

حناف، شوافع، اور حنابلہ کے نزدیک قبر پر خوبی لگانا جائز ہے اور اس پر پانی چھڑ کنا اور اس پر کوئی ترہنی لگانا سنت ہے۔

(الفقه الاسلامی و ادله، ڈاکٹر وہبہ الز حلیلی، مکتبۃ الاسد، دمشق دار الفکر، ج ۲،

ص ۴۶۳ - ۴۶۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الکوہل آمیز پر فیومز

(خوبیوں) و دیگر اشیاء

اور

علمائے کرام کے فتوے

مرتب

ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی

فاضل جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراثیاں شریف گجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد از حمد و صلوٰۃ بنده فقیر الی اللہ و رسولہ عرض کرتا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ جہاں پر ہم نے خوشبو کے متعلق فقیہ مسائل بیان کیے وہاں یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے کہ علمائے کرام اور مفتیانِ عظام الکھل آمیز پروفیومنز کے متعلق کیا فرماتے ہیں بنده فقیر الی اللہ و رسولہ اپنی کم علمی کے باوجود الکھل کی تاریخ اور صرف علمائے کرام کے فرمان اور تحقیق نقل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسن طریقہ سے بیان کرنے کے بعد قابل عمل احکام پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے آمین بجاہا النبی کریم الامین ملی علیہم ۲

الکھل کی تاریخ:

سب سے پہلا شخص جس نے الکھل کا اظہار کیا اور اس کی تقدير کے عمل کو انجام دیا وہ جابر بن حیان التوحیدی ہے اور یہ واقعہ ۱۸۵ھ یعنی 800ء کا ہے۔ پھر عربوں سے یورپ میں منتقل ہوا تو یورپ میں حضرات نے اس کو ہر علاج کے لیے استعمال کیا اور کہا کہ یہ مرض کی دوائی ہے۔

تخریج: (الخمر، ص ۲۵، مترجم سید ابوالحسن برنسی، بحوالہ الکھل کی شرعاً حیثیت، احمد انوار الحق جنید، ص ۴۹، مکتبہ جمال کرم لاہور،)

الکھل کی خصوصیات:

- 1 - بے رنگ شفاف مائع ہوتا ہے۔
- 2 - بہت سی اشیاء کو حل کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔
- 3 - پانی، کلوروفام یا ایتھر میں ہر نسبت سے حل ہو جاتا ہے۔
- 4 - اس کا اپنا مخصوص ذائقہ اور بوہوتی ہے۔

- 5۔ بہت تیزی کے ساتھ بخارات میں تبدیل ہو کر ارجاتا ہے۔
- 6۔ جلد آگ پکڑتا ہے اور اس کا شعلہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔
- 7۔ جلد پر گانے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔
- 8۔ 10 فیصد یا اس سے زائد طاقت میں جراشیم کش ہوتا ہے۔
- 9۔ درجہ ابال 78 فیصد سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔
- 10۔ کثافت اضافی 790 ہوتی ہے۔
- 11۔ جب درجہ حرارت 10 فیصد سینٹی گریڈ ہوتا اس کا درجہ حرارت انجماد منفی 144 ہوتا ہے۔

تخریج: (Homeopathic Pharmacy) بحوالہ الكحل کی شرعی حیثیت، از محمد

انوار الحق جبید، ص ۴۹، مکتبہ جمال کرم لاہور،

الکحل کی پہچان:

- 1۔ اگر یکساں مقدار میں الکھل اور آب مقطر ملایا جائے تو الکھل کی خارجی بختم ہو جاتی ہے۔
- 2۔ اگر سلووناٹریٹ سولیوشن کے چند قطرے اس میں شامل کیے جائیں اور تیز روشنی سے متاثر کیا جائے تو خالص ہونے کی صورت میں اس کی رنگت میں بتدیلی نہیں آتی۔
- 3۔ اگر سلفیورک ایسڈ کے چند قطرے اپنے ہم وزن کے برابر الکھل میں ملائے جائیں تو اس کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

تخریج: (Homeopathic Pharmacy) بحوالہ الكحل کی شرعی حیثیت، از محمد

الحق - جبید، ص ۴۹، مکتبہ جمال کرم لاہور،

اکحل کا استعمال:

- 1 - ہومیو پیٹھک مرٹنچر اور مدرسشن کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔
- 2 - دواؤں کی طاقتون یا یوئینٹائزٹریشن میں استعمال ہوتا ہے۔
- 3 - بیرونی استعمال کی ادویات میں شامل ہوتا ہے۔
- 4 - کیمیائی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال میں لا یا جاتا ہے۔

فتاویٰ نمبر: 1

از مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی مدظلہ العالی

(نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات)

سوال: قبلہ معلوم یہ کرنا ہے کہ سردیوں میں لوشن، کولڈ کریم، ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان چیزوں میں الکوھل اور پرفیوم علیحدہ سے شامل ہوتی ہے ان چیزوں کا استعمال ہر خاص و عام کرتا ہے اس طرح صابن اور شیمپو میں بھی الکوھل کا استعمال ہوتا ہے، کیا ان چیزوں کا استعمال جائز ہے تو پرفیوم کی بھی وضاحت فرمادیں۔ (نامعلوم سائل)

جواب: آدمی کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری اس میں مجبوری ہے۔ جیسا دوائیں وغیرہ میں فریقین کی باتیں سننے کے بعض اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حتیٰ الامکان اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور جہاں مجبوری بن جائے کہ اس کے بغیر گزارنا نہیں ہو سکتا تو وہاں الکوھل والی دواؤں کا استعمال کر لیں۔

لیکن یہ لوشن، کولڈ کریم، اور پرفیوم وغیرہ یہ تو ہماری ضروریات نہیں ہیں اور نہ ہماری مجبوری ہے یہ صرف ایک فیشن ہے۔ بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، جب الکوھل والا بھی خوبیوں ہے اور بغیر الکوھل کے بھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم الکوھل والی کو اختیار کریں؟ اسی طرح جو لوشن ہوتے ہیں یا کولڈ کریم وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں میں الکوھل نہیں ہوتی یہ نسخہ پیکنگ پر لکھا ہوتا ہے جس چیز میں الکوھل ہو تو اس کی پیکنگ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکوھل کی ملاوٹ ہے اور جہاں نہ ہو تو وہاں الکوھل کا نام نہیں

ہوتا۔

یہ مسلمانوں کا ملک ہے اس میں آپ رہتے ہیں تو نیک گمانی کرتے ہوئے جس پر الکوحل نہ لکھا ہو اس قسم کا لوثن یا کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت ہے جب الکوحل کے بغیر والی اور الکوحل والی اشیاء موجود ہیں تو پھر ہمیں کیا مجبوری کہ ہم الکوحل کے بغیر والی چھوڑ کر الکوحل والی استعمال کریں؟

البتہ ہمیوں پیتھک کی دواوں میں معاملہ بعض اوقات غمین بن سکتا ہے تو وہاں ہم اس صورت میں مجوزین کے قتوے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ (از انزیٹ، بترف)

فتاویٰ نمبر: 2

از صاحزادہ پیشوائے اہلسنت مفتی محمد عثمان افضل قادری مدظلہ العالی

(نیک آباد رازیاں شریف گجرات)

سوال: حضرت صاحب پوچھنا یہ ہے کہ کیا الکوحل والی پرفیوم لگانا جائز ہے؟

(سائل ابوالاحمد)

جواب: حتیٰ الامکان اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جب الکوحل کے بغیر والی اور الکوحل والی پرفیو میں موجود ہیں تو بغیر الکوحل والی ہی استعمال کریں۔ لیکن بوقتِ مجبوری الکوحل کا استعمال کسی طریقہ سے بھی ہو جائز ہے۔

فتاویٰ نمبر: 3

از دارالافتاء اہلسنت (دھوتِ اسلامی)

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب اللهم هداية الحق و الصواب
پر فیوم کا استعمال جائز ہے کیونکہ جید علمائے کرام نے لوگوں کے کثرت سے اس
مسئلہ میں بتلا ہونے کی وجہ سے امام اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قول پر فتویٰ دیا ہے
لہذا ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے تاکہ الکوحل والی خوشبوؤں سے کروڑوں مسلمان گناہگار نہ
ہوں اور نہ ان کی نمازیں باطل ہوں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ بِالصَّوَابِ عَزُوجَلُ وَمَلِكُ الْمُؤْمِنِينَ

کتبہ: ابو الصالح محمد قاسم قادری

۷ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ / ۲۲ اکتوبر ۲۰۰۵ء

فتاویٰ نمبر: 4

از علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمۃ
الکوحل اور اسپرٹ کی تحقیق:

علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی الکوحل اور اسپرٹ کی تحقیق بیان کرتے
ہوئے فرماتے ہیں۔

میتھے نول کو وسیع پیانے پر محل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس سے فارم
ایلڈی ہائیڈ (FORMALDEHYED) تیار کی جاتی ہے یہ بہت زہریا
مرکب ہے اس سے اندھا پن بلکہ بعد اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے میتھے
نول (METHANOL) کو اسی نول (ETHANOL) میں شامل کر دینے
سے اسی نول (ETHANOL) پینے کے قابل نہیں رہتا یعنی
ڈینچرڈ (DENATURED) ہو جاتا ہے۔

اِسْتَهْنَوْل (ETHANOL)

زمانہ قدیم سے اِسْتَهْنَوْل (ETHANOL) چینی کے محلول یا غلے کے نشاستے کی تخمیر سے تیار کیا جاتا ہے تخمیر (FERMENTATION) ایک حیاتی کیمیائی (BIOCHEMICAL) عمل ہے جو خمیر (YEAST) یا دیگر باریک جراثیموں (MICRO ORGANISMS) میں پائے جانے والے ایزامنز (ENZYMES) کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے یہ ایزامنز (ENZYMEs) پیچیدہ نامیاتی عمل انگیز ہیں جن کا عمل مخصوص ہوتا ہے۔

عمل تخمیر سے محلول میں 12 فیصد اِسْتَهْنَوْل (ETHANOL) پیدا ہوتا ہے تخمیر شدہ محلول کو کسری کشید (ERACTIONAL DISTILATION) سے 5 فیصد اِسْتَهْنَوْل حاصل ہوتی ہے جسے ریکٹی فائیڈ اسپرٹ (RECITIFIED SPIRITE) بھی کہتے ہیں، مکمل طور پر غیر آبیدہ الکوحل (سو فیصد خالص) حاصل کرنے کے لیے 95 فیصد اِسْتَهْنَوْل میں CaO اکر آمیزے کو کشید کر لیتے ہیں۔ ڈسٹیلیٹ یعنی حاصل کشید کو خالص یا مطلق الکحل (ABSOLUTE ALCOHOL) کہتے ہیں۔

اِسْتَهْنَوْل کو ناقابل استعمال مشروب بنادینے کے لیے اس میں میتھے نول (METHANOL) جیسی زہریلی اشیاء ملا دی جاتی ہیں یہ الکحل کو ڈینپھر ڈکرنا (DENATURING OF ALCOHOL) کہلاتا ہے جب اِسْتَهْنَوْل الکحل میں میتھاں الکحل ملا کو اس ڈینپھر کر دیا جاتا ہے تو اسے میتھیلیڈ اسپرٹ

(METHYLATED) کہتے ہیں۔

حوالہ: (شرح صحیح مسلم از علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی، ج ۲ ص ۲۲۰ - ۲۲۱، فربد بکسال لاہور،)

اور جلد نمبر ۳ میں الکھل کے بارے یہ فرماتے ہیں۔ کہ ہم فقه حنفی کی متعدد کتابوں کے حوالہ جات سے یہ بیان کر چکے ہیں، کہ خمر کے علاوہ دیگر شرابوں کی قلیل مقدار جو نشرہ آور نہ ہو وہ امام ابوحنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک جائز ہے اس لیے الکھل بھی اگر اسی مقدار میں ہو تو وہ بھی جائز ہے۔

کیونکہ الکھل انگور اور بھجور سے نہیں بنائی جاتی بلکہ شہد، شیرہ، مختلف دانے، جو، انناس، گندھگ، ادرک کی جڑ، اور دیگر نشاستہ دار اشیاء سے بنائی جاتی ہے جب کہ خمر کے لیے صرف انگور سے بنایا جانا کافی نہیں بلکہ انگور کا کچا شیرہ جو پڑے رہنے سے جھاگ چھوڑ دے وہ خمر کہلاتا ہے، اس لیے الکھل پر خمر کی تعریف صادق نہیں آتی۔ اور الکھل کی وہ مقدار جو حد نشرہ تک نہ پہنچے امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔

حوالہ: (شرح صحیح مسلم از علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی، ج ۴ ص ۳۲۲، فربد بکسال لاہور،)

پرفیوم کا حکم:

یہ تحقیق کرنے کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب مدظلہ العالی الکھل آمیز اشیاء کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ہم اس بحث کے شروع میں قرآن مجید، احادیث صحیحہ، آثار صحابہ، اقوال تابعین اور آئمہ احناف کی تصریحات سے بیان کر چکے ہیں کہ خمر کے علاوہ باقی نشرہ آور مشروبات قلیل مقدار میں (بوقتِ اشد ضرورت) جائز ہیں، اس لیے ایلو پیتھک اور ہومیو پیتھک دوائیں جائز ہیں جن میں الکھل استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح قلیل مقدار میں طبی ضرورت کی بناء پر اپرٹ کا

استعمال بھی جائز ہے اور سینٹ اور، پرفیووم، دغیرہ جن میں الکھل ملی ہوتی ہے ان کا
استعمال بھی جائز ہے۔ (شرح صحیح مسنون از علامہ غلام رسول سعیدی مد ظنه العالی،
ج ۲ ص ۲۲۰-۲۲۱، فرید بکستان لاہور،)

فتاویٰ نمبر: 5

از مفتیان مجلس شرعی مبارک پور (انڈیا)

الکھل کی لفظی تشریع:

ایلکوہل (1) (Alcohol) کا طبی نام الکھل ہے جس کا معنی عربی میں "روح
الخمر" اور اردو میں "روح شراب" یا "جوہر شراب" ہے انگریزی زبان کی بڑی
مشہور لفظ "بھاگواز" میں اس کا معنی یہ لکھا ہے، خالص شراب کی روح، پورا پرٹ
آف وائن (Pure Spirit of Wine) (2) انگریزی کی دوسری مستند اور
متداول لفظ، ایڈوانسڈ ٹوینٹیھ سینچری ڈکشنری، میں اس کا معنی "روح شراب" درج
ہے (3). مخزن الادویہ ڈاکٹری (4) میں اس کی تشریع اس طرح ہے، "انگریزی لفظ
ایلکوہل مشتق ہے عربی لفظ، الکھل" سے جس کے معنی اصطلاح کیمیا میں نہایت
مقطر یا روح کے ہیں، مگر اب اس لفظ کا اطلاق، مطلق روح شراب، پر ہوتا
ہے۔ (5)، (6)

تخریج:

(1) الکھل کا انگریزی تلفظ "ایلکوہل" ہے۔

(2) بھاگواز ڈکشنری کلان، ص 45۔

(3) ایڈوانسڈ ٹوینٹیھ سینچری ڈکشنری، ص 20۔

(4) مخزن الادویہ ڈاکٹری، یہ اپنے موضوع پر بہت جامع اور منفرد کتاب ہے یہ انگریزی طب
کی کئی ایک مستند کتابوں سے ماخوذ ہے، مثلاً، (۱) فارماکوپیا، (۲) فارماکوپیڈیا، (۳) میتریا مینڈ بکا

آف انڈیا، (۴) برٹش فارما سیوتیکن کوڈیکس وغیرہ۔

(۵، ۶) مخزن الادویہ ڈاکٹری، ص ۶۲۳، بیان ایلکھاں، مجلس شرعی کے فیصلے، جلد اول، ص ۱۱۰، والضحی بیلی کیشن لاهور۔

الکھل آمیز اشیاء کا استعمال:

میز، کرسی، (پرفیوم)، دیوار، وغیرہ میں جو رنگ استعمال ہوتے ہیں، اگر بطریق شرعی یہ ثابت بھی ہو کہ ان میں اپرٹ یا الکھل کی آمیزش ہے تو بھی اب بوجہ عمومِ بلوئی ودفع حرج حکم طہارت ہے، جیسا کہ رنگین کپڑوں کے بارے میں مجدد عظیم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بوجہ عمومِ بلوئی حکم طہارت دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم،
دستخط فیصل بورڈ

(۱) فقیر محمد اختر رضا قادری از ہری غفرلہ (۲) جلال الدین احمد الامجدی

(۳) ضیاء المصطفیٰ قادری عفی عنہ

دستخط دیگر علمائے کرام و مفتیان عظام

(۱) محمد شریف الحق امجدی (۲) قاضی عبدالرحیم بستوی غفرلہ

(۳) محمد نظام الدین رضوی (۴) محمد معراج القادری،

(مجلس شرعی کے فیصلے، جلد اول، ص ۱۲۱، والضحی بیلی کیشن لاهور،)

پرفیوم کا حکم:

قارئین کرام اس فتویٰ میں عمومِ بلوئی کی وجہ سے الکھل آمیز اشیاء کی طہارت (یعنی جواز) کا حکم دیا گیا ہے اور پرفیوم کا استعمال بھی عمومِ بلوئی کے تحت جائز ہے، مفتی نظام الدین رضوی عمومِ بلوئی کی تعریف یہ کرتے ہیں۔

”وہ حالت و کیفیت جس کے باعث عوام و خواص سبھی محظوظ شرعی میں بتلا

ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال، یا ان میں سے کسی ایک کے تحفظ
کے لیے اس سے بچنا متعذر یا حرج و ضرر کا سبب ہو۔“

(فقہہ اسلامی کے سات بیادی اصول، مفتی نظام الدین رضوی، دارالعلوم کراچی 2009ء،
ص نمبر: 163،)

یہ تعریف پرفیوم کے بارے میں بھی صادق آتی ہے کیونکہ پرفیوم کا استعمال اس
قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ اب اس سے بچنا حرج و ضرر کا سبب ہے لہذا پرفیوم کا استعمال
بھی عموم بلومی کی وجہ سے جائز ہے۔ لیکن پھر بھی حتی الامکان احتیاط بہتر ہے۔ واللہ
تعالیٰ اعلم بالصواب، ”ابوالاحمد غفرلہ“

فتویٰ نمبر: 6

از مفتی عبدالقيوم ہزاروی مدیہ الرحمہ، مفتی عبدالرحیم بستوی و مفتی عبدالواجد قادری،
سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے محققین و مفتیان، شرع متین، اس مسئلہ کے بارے میں
کہ پرفیوم (الکھل ملی ہولی خوشبو) کا استعمال از روئے شرع ناجائز و حرام ہے یا جائز و
حلال؟ اس جسم یا کپڑے پر لگا کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک دینی رہنمای جن کو یہاں
اکثر مسلمان اپنادینی قائد بھی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چہ الکھل کے استعمال میں
علماء کا اختلاف ہے لیکن علمائے پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ الکھل شراب نہیں ہے اور
اس کا استعمال جس یا کپڑے پر یادداوؤں میں حلال ہے۔

یہاں مقیم ایک مفتی صاحب سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ الکھل
اپرٹ ہے جو خالص شراب ہے اب تک علمائے اہلسنت کی یہی تحقیق ہے، لہذا اس کا
استعمال ناجائز و حرام ہے جس کپڑے یا جسم پر اسے لگایا جائے گا کپڑے یا جسم کا اتنا

حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک درہم کی مقدار میں ہو تو نماز نہیں ہوگی پڑھ لی تو اس نماز کو پھر سے پڑھنا فرض ہو گا اور جہاں تک دواوں کا تعلق ہے تو الکھل آمیز دواوں کا استعمال بھی ممنوع ہے ہاں جہاں ان دواوں کا بدل ممکن نہ ہو اور جان جانے یا اعضائے بدن میں سے کسی عضو کے بیکار ہونے کا یقینی خطرہ ہوتا، ”اضرورات تبع الحکمرات“ کے خانہ میں داخل ہو کر محدود حدود میں اس کے استعمال کی رخصت ہوگی ان دونوں حکموں کے پیش نظر آمثوذم کی مسلم عوام پر پیشان ہے لہذا حکم شرع سے آگاہ کیا جائے۔

السائل: عباس علی واجدی

سینکڑی اسلامک فاؤنڈیشن

الجواب:

اس مسئلہ میں وہاں مقیم مفتی صاحب دام نظر و زید مجدہ کا موقف اور بیان درست اور حق ہے ان کے قول کے خلاف کرنے اور کہنے والے جاہل یا گمراہ ہیں اور اپنی رائے میں حلال و حرام کا فیصلہ گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے،

”وَلَا تَقُولُوا إِلَمَا تَصِفُ الْبِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا أَعْلَى اللَّهِ الْكَذِبَ“ (النحل: ١٦٦)

نہ ہو جو تمہاری زبان میں جھوٹ کہتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔

الکھل اسپرٹ کا جوہر ہے اور اسپرٹ عرقی خمر ہے یہ خبیث ترین خمر و شراب ہے لہذا نجس و حرام ہے۔ امام الہلسنت الشاہ احمد رضا البریلوی نے اپنی کتاب ”الاحلى“

من السیکر“ میں فرمایا:

“ان اسبارتو وہی روح النبیل والخمر قطعاً بل من اخبت
الخمور فھی حرام و رجس نجاسة غلیظة کالبول“

(فتاویٰ رضویہ جلد چہارم رضا فاؤنڈیشن)

یعنی اپرٹ تو یہ شراب کا جو ہر ہے اور خمر و شراب ہے بلکہ وہ خبیث ترین
شراب ہے لہذا یہ قطعاً حرام اور نجس ہے اور نجاست بھی غلیظہ جیسے پیشاب
نجس ہے۔

لہذا جس چیز میں اس کی ملاوٹ ہوگی وہ ناپاک و نجس ہوگی جیسا کہ وہاں مقیم مفتی
صاحب نے فرمایا۔ واللہ اعلم“

مفتي عبد القیوم ہزاروی (جامعہ نظامیہ لاہور پاکستان: 22/1/1999)
اس مسئلہ میں مفتی صاحب کا کہنا درست ہے اسی کے مطابق عمل کریں۔

واللہ الحادی و هو تعالیٰ اعلم

قاضی عبدالرحیم بستوی غفرلہ

(مرکزی دارالافتاء سوداگران بریلی شریف)

(فتاویٰ یورپ، اعظم اعظم ہالینڈ عبد الواحد قادری، مکتبہ جام نور دہلی، ص ۵۱۵-۵۱۶)

نوٹ:

علامہ و مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی مدظلہ العالی نے ماقبل گزرے ہوئے ایک
فتویٰ کی تصدیق کی جس میں الکھل آمیز اشیاء کی حرمت (غیر جواز) کا موقف اختیار
کیا گیا۔ لیکن یہاں پر انہی کا موقف الکھل آمیز اشیاء کی حلت (جواز) کا ہے۔ ایسا
اس لیے ہوا کہ پہلے علماء کا فتویٰ الکھل آمیز اشیاء کے حرام ہونے کا تھا اب حلال و جائز

ہونے کا ہے اسی کے متعلق دارالافتاء اہلسنت (دعوتِ اسلامی) سے سوال کیا گیا تو
مفتيانِ کرام نے جواب دیا سوال و جواب دونوں اگلے فتویٰ میں آرہے ہیں۔
ابوالاحمد غفرلہ،

فتوىٰ نمبر: 7

از دارالافتاء اہلسنت (دعوتِ اسلامی)

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ پہلے
پر فیوم لگانے کی اجازت نہ تھی اب اجازت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

الجواب بعون الوہاب اللہم هداية الحق و الصواب
فی زمانہ علمائے کرام نے پر فیوم لگانے کی اجازت دی ہے کیونکہ ہمارے زمانے
میں لوگوں کا اس مسئلہ میں ابتلاء عام ہے لہذا علمائے کرام نے عموم بلوی کی وجہ سے
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اختیار کرتے ہوئے اس کی پاکی کا حکم
فرمایا تاکہ مسلمان گناہگار ہونے سے بھی نفع جائیں اور ان کی نمازیں بھی باطل نہ
ہوں۔ چنانچہ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں:
”والحرج مدفوع بالنص و عموم البلوی من موجبات التحقيق“۔ یعنی نص سے ثابت ہے کہ حرج دور کیا گیا اور عموم بلوی اسباب تحفیف
سے ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد ۲، ص ۵۲، مکتبہ رضویہ کراچی)

یاد رہے کہ بعض ایسے سائل ہوتے ہیں جن میں عرف یا کسی حرج کی وجہ سے حکم
تبديل کر دیا جاتا ہے یا اس میں تحفیف کی کوئی صورت نکالی جاتی ہے اس کی مثالیں
کتب فقہ میں منقول ہیں۔ چنانچہ فقهاء کرام نے جنازے کے ساتھ ذکر کو مکروہ لکھا
ہے۔ کیونکہ اس میں مشغولیت کے سبب مردے کو دیکھ کر جو فکر آخرت پیدا ہوگی یا

موت کی یاد آئے گی وغیرہ اس سے توجہ ہٹ جائے گی اس وجہ سے مکروہ فرمایا تھا۔ مگر اب لوگوں میں یہ فکر یا موت کی یاد وغیرہ آنا ختم ہو چکا ہے تو فی زمانہ اگر ذکر کی اجازت نہ دی جاتی تو لوگ اپنی اپنی کفتگو میں مصروف رہتے اور دنیاوی باتوں سے گریز نہ کرتے لہذا ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے اب جنازے کے ساتھ ذکر کرنے کی اجازت دی ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ بالصواب عز وجل و ملکہ قدر

کتبہ:

ابو الصالح محمد قاسم قادری

۲۸ جمادی الثانی ۱۴۲۸ھ ۲۲ جولائی ۲۰۰۶ء

فتاویٰ نمبر: 8

از علامہ و مفتی محمد اکمل قادری عطاری مدظلہ العالی
سوال:

پرفیوم اور بادی سپرے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟

(نامعلوم کار)

جواب:

بالکل اس سے نماز ہو جاتی ہے اگرچہ اس میں الکھل ملا ہو اگر آپ تقویٰ اختیار کرنا چاہیں تو الگ بات ہے کہ آپ استعمال نہ کریں۔ لیکن اس بات کی بڑے بڑے فقہاء نے اجازت دے دی ہے کہ آپ الکھل والی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں۔

اور پرفیوم بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو چکی ہے اور پھر برآہ راست قرآن و

حدیث میں اس کو منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو پھر فقہاء اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ کہیں کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے تو پھر نمازوں ہو گی تو فقہاء کا صرف اپنی رائے سے ہزاروں لوگوں کو گناہ گار قرار دینا اور ان کی نمازوں کی بر بادی کا سامان کرنا لازم آئے گا اور فقہاء اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ صرف اپنی رائے سے لوگوں کی نمازوں کی بر بادی کا سامان کریں تو آپ اس کو بالکل یوز (استعمال) کر سکتے ہیں۔

(۱۹، صفر المظفر : اے۔ آر۔ دائے، الی ویو + TV)

عرض مصنف

دورانِ تحریر مجھ سے سہوا کوئی غلطی یا بھول ہو گئی ہو تو اپنے اُس رب کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جس کی بخشش اور مغفرت کی کوئی حد نہیں کہ وہ میرے جملہ گناہ بتسل مصطفیٰ ﷺ معااف فرمادر دین دنیا کی بھلایاں عطا فرمائے اور میں قارئین کرام سے مودبانہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میری کسی قسم کی بھی غلطی پر مطلع ہوں تو بندہ فقیر کو ضرور اطلاع فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی

0335 1600053

(فاضل جامعہ قادریہ عالیہ نیک آباد رازیاں شریف تبرات)

ما خذ و مراجع

(1) قرآن مجید

(2) تفسیر کبیر

كتب احادیث:

- (3) اتحاف الخيرة الامرۃ برواية المسانيد العشرۃ، شہاب الدین احمد بن ابی بکر ۲۸۵ھ۔
- (4) السنن الکبری لابن حییی، ابو بکر احمد بن علی الخراسانی لابن حییی ۳۵۸ھ۔
- (5) السنن الکبری للنسائی، امام نسائی علیہ الرحمۃ۔
- (6) السنن الماثورۃ۔
- (7) الشفیة لابن ابی عاصم۔
- (8) المستدرک على کلمم،
- (9) ارجیم الصغیر، سلمان بن احمد بن ایوب الطبرانی ۳۶۰ھ۔
- (10) ارجیم الکبیر، سلمان بن احمد بن ایوب الطبرانی ۳۶۱ھ۔
- (11) بخاری شریف، امام محمد بن اسماعیل بخاری ۲۵۶ھ۔
- (12) جامع ترمذی،
- (13) داری شریف، عبد اللہ بن عبد الرحمن الداری ۲۵۵ھ۔
- (14) سنن ابن ماجہ،
- (15) سنن ابی داود شریف،
- (16) سنن سعید بن منصور،
- (17) شرح مشکل الآثار، امام طحاوی علیہ الرحمۃ
- (18) شعب الایمان، ابو بکر احمد بن علی الخراسانی لابن حییی ۳۵۸ھ۔
- (19) صحیح ابن حبان،
- (20) صحیح ابن حزیمة
- (21) صحیح والضعیف الجامع الصغیر و زیادۃ، امام جلال الدین سیوطی ۱۹۱ھ۔
- (22) کنز العمال، علی بن حسام الدین ۵۷۹ھ۔

- (23) سخراج أبي عوانة.
- (24) مسلم شريف، أمام مسلم بن حجاج القشيري ـ ٢٦٤هـ.
- (25) سعيد أبي داود الطيالسي.
- (26) سعيد أبي يعلى موصلي.
- (27) سعيد أمام أحمد بن حنبل، أباً محمد بن حنبل عليه الرحمه.
- (28) مسلسلة شريف.
- (29) مصنف ابن شيبة.
- (30) مصنف عبد الرزاق.
- (31) مؤظاً أباً مالك.
- (32) نسائي شريف.

شروحاتِ احاديث:

- (33) جمع الوسائل، علي بن سلطان المعروف بملأ علي قاري الحنفي ـ ١٠١٢هـ.
- (34) خاشية على الوفا، مفتى محمد اشرف سيا لوي عليه الرحمه.
- (35) شرح النــ للبغوي، حسين بن سعود بن محمد البغوي ـ ١٥٥هـ.
- (36) شرح صحيح مسلم، علامه غلام رسول سعیدي.
- (37) شرح نووى على مسلم، أمام شرف الدين النووى.
- (38) فتح الباري شرح صحيح بخاري، أمام ابن حجر العسقلاني.
- (39) مرآة المناجي شرح مسلسلة المصانع، مفتى احمد يار خاں لغى عليه الرحمه.
- (40) مرقة شرح مسلسلة علي بن سلطان المعروف بملأ علي قاري الحنفي ـ ١٠١٢هـ.

كتب سيرت وفضائل:

- (41) الرياض الابدية في شرح اسناد حجر الكلية، أمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (42) السيوطي عليه الرحمه، ـ ٩١١هـ.
- (43) السيرة الحلبية، علي بن ابرهيم بن احمد الحنفي ـ ١٠٣٣هـ.
- (44) السيرة المدوية، أمام عمار الدين اسماعيل بن عمر بن كثير، المعروف بابن كثير.
- (45) الشفاء، ابو الفضل قاضي عياض ماكي عليه الرحمه ـ ٥٣٣هـ.
- (46) الوفا، أمام عبد الرحمن ابن جوزي.
- (47) استماع الاستماع بالمعنى من الاحوال والاموال والحمدة والمحام، احمد بن علي بن عبد الله مقريزى ـ ٨٢٥هـ.

- (49) انوار نوشہ، محمد امیر شاہ کیلانی،
- (50) جامع المجزات، امام یوسف بن اسماعیل البهانی ۱۳۵۰ھ۔
- (51) جامع المجزات، محمد بن عبد الواحد الرحاوی۔
- (52) جواہر الحماری فضائل النبی الخوار، امام یوسف بن اسماعیل البهانی علیہ الرحمۃ ۱۳۵۰ھ۔
- (53) حدائق بخشش، امام احمد رضا خاں البریلوی علیہ الرحمۃ۔
- (54) خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمۃ، ۱۹۱۱ھ۔
- (55) دلائل الدبوة، ابو فیض علیہ الرحمۃ۔
- (56) دلائل الدبوة للبهانی،
- (57) زرقانی علی المواحب، ابو عبد اللہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی، ۱۱۲۲ھ۔
- (58) سلیل الہدی والرشاد، امام محمد بن یوسف الصافی، ۹۵۲ھ۔
- (59) سلوة الکثیب بوفاة الحبیب، محمد بن عبد اللہ البخاری بکراشافی، ۸۳۲ھ۔
- (60) سیرت ابن هشام،
- (61) سیرت مصطفیٰ جان رحمت، از افادات امام احمد رضا خاں البریلوی علیہ الرحمۃ۔
- (62) شرح حدائق بخشش، مفتی غلام حسن قادری۔
- (63) شرح شفاء، علی بن سلطان القاری الحنفی، ۱۴۱۰ھ۔
- (64) شرح شامل ترمذی، علامہ ناصر الدین ناصر۔
- (65) شرف مصطفیٰ طبلہ، عبد الملک بن محمد ابراهیم النیشاپوری، ۱۳۰۸ھ۔
- (66) شامل الرسول، احمد بن عبد الفتاح۔
- (67) شامل ترمذی،
- (68) عيون الاشرفی فنون المغازی والسیر، محمد بن عبد اللہ البخاری بکراشافی، ۸۳۲ھ۔
- (69) قصیدہ اطیب النعم، شاہ علی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ۔
- (70) قصیدہ بردہ شریف، امام بوصیری علیہ الرحمۃ۔
- (71) مجموع لطیف انسی فی صبغ المولد الدبوی، ذاکر عاصم بن ابراهیم الکیانی۔
- (72) مدارج الدبوة، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ۔
- (73) مواہب الدنیہ،
- (74) مولد العروس، امام ابن قیم الجوزی۔
- (75) مولد السناوی، امام مناوی علیہ الرحمۃ،
- (76) وسیلة الاسلام بالنبی علیہ السلام، احمد بن حسین بن علی الخطیب، ۱۸۰۰ھ۔

كتب اسماء الرجال:

- (77) الاصحاب، امام احمد بن علي جابر العسقلاني،
- (78) الاستيعاب في معرفة الانبياء والصالحين، يوسف بن عبد الله المخرمي ٢٣٤ھـ.
- (79) أسد الغابة، امام ابن اثير عليه الرحمه، ٢٣٠ھـ.

كتب فقه:

- (80) الفقه الاسلامي وادلةه، داكار وعصبة الز حلبي.
- (81) بهار شريعت، محمد احمد على عظمى عليه الرحمه.
- (82) قانون شريعت، علامہ شمس الدین احمد جو پوری علی الرحمه.
- (83) الفتاوى الحندیہ (فتاوی عالمگیری)
- (84) رد المحتار،
- (85) جواہر الحیرۃ،
- (86) باب الناسک،
- (87) المسک المتقطع -
- (88) الکھل کی شرعی تہییت، محمد انوار الحق جنید،
- (89) فتاوی یورپ، مفتی عبدالواحد قادری،
- (90) مجلس شرعی کے نصیلے، مفتی نظام الدین رضوی مصباحی،
- (91) فقہ خفی کے سات بیانی اصول، مفتی نظام الدین رضوی مصباحی،

كتب عامة:

- (92) اتحاف السعادة لابن القشنی في شرح احیاء العلوم الدین، -
- (93) الاتحافات الربانية، امام دویی عليه الرحمه،
- (94) الاعلام بما في الدين من انصارى من الفساد والادحام، ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي، ١٧٣٥ھـ.
- (95) البدایہ النھایہ، امام علاء الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر،
- (96) المخرم، مترجم سید ابو الحسن برلنی،
- (97) السنن لمبتدعات، محمد بن احمد بن عبد السلام خوادی، ١٥٢١ھـ.
- (98) الصوائق الخرقة، احمد بن محمد بن علی بن حجر اسقیمی ١٣٩٦ھـ.
- (99) الطبقات، امام ابن سعد عليه الرحمه.
- (100) الفتح الكبير، امام عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی، ١٩١١ھـ.

- (101) ایڈ وانسڈ نوینچہ پھری ڈکشنری،
- (102) بھاگواز ڈکشنری کلاں،
- (103) بہجۃ المحافل، سید بن ابی بکر حضرتی ۸۹۳ھ۔
- (104) حدائق الانوار و مطلع الاسرار، محمد بن عمر بن مبارک حضرتی ۹۲۰ھ۔
- (105) سیر اعلام العبلاء، شمس الدین احمد الذھبی ۴۲۸ھ۔
- (106) فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل۔
- (107) فیض القدری شرح جامع الصیغہ، عبدالرؤف بن تاج العارفین بن علی ۱۰۳۱ھ۔
- (108) کشف الحفاء و مزیل الالباس، اسماعیل بن محمد الجبلونی ۱۶۲۰ھ۔
- (109) مخزن الادویہ ڈاکٹری،
- (110) مقاصد اسلام،
- (111) ملفوظات اعلیٰ حضرت، الشاہ احمد رضا خاں البریلوی ۱۳۲۰ھ۔

فتاویٰ جات:

- (112) مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی۔
- (113) مفتی محمد عثمان افضل قادری مدظلہ العالی نیک آباد گجرات۔
- (114) مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمۃ جامعہ نظامیہ رضویہ شجو پورہ۔
- (115) دارالافتاء المسنۃ (دعوت اسلامی) کراچی۔
- (116) علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کراچی۔
- (117) مفتی قاضی عبدالحیم بستوی صاحب۔
- (118) مفتی محمد اکمل قادری عطاری مدظلہ العالی کراچی۔
- (119) مفتی عبدالواجد قادری صاحب۔
- (120) مفتی ابوالصالح محمد قاسم قادری کراچی۔

احفظ القری بروايات اعلام حسن قادری کی را قات پر دیگر تصانیف



اکبر نسخہ میرے

نیپینٹر ۷۰ اردو بازار لاہور
Ph: 37352022